


امام احمد رضا اور علمائے ہندوستان



پروفیسر ڈاکٹر محمد اللہ قادری

بزمِ عاشقانِ مصطفیٰ لاہور



پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری



بزمِ عاشقانِ مصطفیٰ

لاہور، پاکستان

Marfat.com

سلسلہ اشاعت نمبر

| | |
|----------|------------------------------------|
| نام | : امام احمد رضا اور علماء بلوچستان |
| تحریر | : پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری |
| تعداد | : گیارہ سو |
| سن اشاعت | : ۱۴۲۰ھ / ۱۹۹۹ء |
| صفحات | : ۶۴ |

پروف ریڈنگ : اقبال احمد اختر القادری

سید زاہد اللہ قادری

ناشر : بزم عاشقان مصطفیٰ لاہور

بتعاون : ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی

کمپوزنگ : لیزر نیٹ، اردو بازار کراچی

ہدیہ : دعائے خیر برائے ناشر و معاونین

(نوٹ : بیرون جات کے احباب مبلغ دس روپیہ کا ڈاک ٹکٹ

ارسال کر کے حاصل کریں۔)

ملنے کا پتہ



بزم عاشقان مصطفیٰ

مکان نمبر ۲۵، گلی نمبر ۳۲، فلیمنگ روڈ، لاہور۔ ۵۴۰۰۰

تقدیم



پروفیسر ڈاکٹر محمد انعام الحق کوثر

پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری ادارہ تحقیقات امام احمد رضا (رجسٹرڈ) پاکستان کراچی کے جنرل سیکرٹری اور معارف رضا، کے مدیر ہیں، آپ نے ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد سابق ایڈیشنل سیکرٹری وزارت تعلیم حکومت سندھ زیر نگرانی کنزالات ایمان اور دوسرے معروف اردو قرآنی تراجم کا تقابلی جائزہ، کے عنوان سے مقالہ لکھ کر کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا نے آپ کو اس کارنامے پر امام احمد رضا ریسرچ ایوارڈ (گولڈ میڈل) پیش کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری کے اس مختصر سے تعارف سے یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علمی و تحقیقی میدان کے شہسوار ہیں۔ وہ کام، کام، کام پر کام پر دل و جان سے فدا، شیدا اور عاشق ہیں۔ وہ ایسے متعدد مقالات ضبط تحریر میں لاکھتے ہیں جو مختلف علاقوں کے بسنے والے ان علماء اور مشائخ پر روشنی ڈالتے ہیں جو اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی سے مختلف معاملات اور موجودہ صدی کے مسائل پر استفادہ کرتے رہے ہیں۔

اسی علمی و تحقیقی سلسلے میں، امام احمد رضا اور علماء بلوچستان،، پر پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری کا علمی اور تحقیقی کام نہ صرف قابل توصیف ہے بلکہ قابل تقلید بھی۔

آفریں باد بریں ہمت مراد نہ تو
این کار از تو آید و مرداں چنین کنند

انہوں نے نہات لگن، جاں کاہی، بردباری اور لگاتار محنت و مشقت سے بلوچستان سے متعلق اپنی تحقیق کو صفحہ قرطاس پر مرتسم کیا ہے وہ یقیناً مبارک باد کے حقدار ہیں ایک بار نہیں صد بار مبارکباد....

دعا ہے کہ باری تعالیٰ ڈاکٹر مجید اللہ قادری کے گہر بار قلم کو زندہ، تابندہ اور درخشندہ رکھے اور علمی و تحقیقی دنیا ان کے توانا تحقیقی کارناموں سے جگمگ جگمگ کرتی رہے۔

خاور کے الفاظ ہیں۔

تمنا ہے اگر منزل کی تجھ کو
ہمیشہ خوبر کی جستجو کر
جو ہو جائے جہد مسلسل سے واقف
وہی زندگی ہے فقط جاودانہ

پروفیسر ڈاکٹر محمد انعام الحق کوثر

سیرت اکادمی بلوچستان

۲۰۱۷ء۔ اولیٰ ک ۱۱۱

سٹیٹ ٹاؤن کونٹ

۲۲ دسمبر ۱۹۹۸ء / ۲ رمضان ۱۴۱۹ھ

مکتوب بنام ڈاکٹر مجید اللہ قادری



از پیرزادہ اقبال احمد فاروقی، لاہور

۲۳ اگست ۱۹۷۷ء

حضرت قبلہ ڈاکٹر مجید اللہ صاحب زید لطفہ

السلام علیکم! امام احمد رضا کانفرنس کا مجلہ اور معارف رضا دونوں مرقعات رضویت ملے۔ ماشاء اللہ آپ حضرات نے اس سال بھی انہی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بلند پایہ مضامین زیور طباعت سے آراستہ فرمائے۔ اگرچہ میں اپنے تاثرات سید وجاہت رسول صاحب قادری مدظلہ العالی کے ایک خط میں پیش کر چکا ہوں مگر معارف رضا میں آپ نے بلوچستان کے علماء کرام سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے روابط کے متعلق جو مضمون شریک اشاعت فرمایا ہے اس کے لئے آپ کو خصوصی طور پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے اعلیٰ حضرت کے روابط کو تلاش کیا۔ ان پر تحقیق کی۔ پھر بعض مقامات پر خود جا کر حالات معلوم کئے اس مصروفیت کے دور میں آپ کا سفر اور محنت قابل داد ہے۔ خصوصاً "آپ نے مولانا قادر بخش کے علمی تعلقات پر جس محنت سے کام کیا ہے وہ آپ کی تحقیق اور جستجو کا بڑا عمدہ کام ہے۔

آپ نے پچھلے چند سالوں میں علمائے سندھ، علمائے بہاولپور، علمائے کراچی، علمائے پنجاب پر ایسے ہی تحقیقی مضامین لکھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و فنون کے تشنگان کا جس انداز میں تعارف کرایا ہے وہ

بہت سے کام کرنے والے اسکالرز کی راہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ آپ پنجاب کے علمائے کرام کے رابطہ پر بھی کام کر رہے ہیں اور اس سلسلہ میں جناب سید صابر حسین شاہ بخاری بھی کام کر رہے ہیں۔ اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا ذوق ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو بہت دے اور یہ شاندار کام مکمل ہو کر لوگوں کے سامنے آئے۔ میں گزارش کروں گا کہ پنجاب کے علماء کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ پنجاب کے ان اضلاع کو نظر انداز نہ فرمائیں جو اعلیٰ حضرت کے زمانہ میں پنجاب کا حصہ تھے مثلاً "امرتسر، فیروز پور" اور لدھیانہ کے علمائے کرام پنجاب کے علمائے کرام ہیں۔ ان حضرات کو بھی شریک فرمائیں۔ امرتسر سے "الفقیہہ" نے اعلیٰ حضرت کے روابط کو پھیلانے میں بڑا کام کیا تھا۔ لدھیانہ کے بعض علماء کرام اور فیروز پور کے علمائے کرام کے اعلیٰ حضرت سے رابطے رہے۔ آج نہیں تو کل آپ کی تحریریں تلاش کی جائیں گی اور اعلیٰ حضرت پر مزید کام کرنے والے جب آئیں گے تو ڈاکٹر مجید اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم کیا جائے گا۔ آپ نے اپنے رفقاء کار علامہ شمس بریلوی اور صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری پر بھی بڑی پر مغز معلومات دی ہیں یہ بھی ایک اچھا انداز ہے۔ کام کرنے والوں کا تعارف آنا چاہئے اور اس میں خوشامد اور تعلق کے اشاروں کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔ اگرچہ ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب پر بعض حضرات نے بہت کچھ لکھا ہے اور چھپا ہے مگر ایسی شخصیت پر جس قدر لکھا جائے کم ہے اور ان کی علمی خدمات کا اعتراف کرنا کوئی خلاف حقیقت بات نہیں ہے۔ مجھے اس خط میں صرف آپ کے مضمون "امام احمد رضا اور علمائے بلوچستان" پر ہدیہ تبریک پیش کرنا تھا مگر بعض باتوں کو زیب تبریک بنا کر لے آیا۔

اقبال احمد فاروقی، لاہور



امام احمد رضا اور علماء بلوچستان

امام احمد رضا خان قادری برکاتی محدث بریلوی (پ ۱۲۷۲ھ / ۱۸۵۶م - ۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۱ء) ابن مولانا مفتی محمد تقی علی خان قادری برکاتی بریلوی (پ ۱۳۳۶ھ / ۱۸۳۰م - ۱۳۹۷ھ / ۱۸۸۰ء) ابن مولانا مفتی محمد رضا علی خان بریلوی (پ ۱۳۲۳ھ / ۱۸۱۰م - ۱۳۷۲ھ / ۱۸۶۵ء) کے آباؤ اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے لاہور کے راستے غالباً بارہویں صدی ہجری کے اواخر میں روہیلکھنڈ بریلی تشریف لائے۔ (۱) امام احمد رضا کے جد امجد مولانا مفتی رضا علی خان الافغانی نے بریلی شہر میں ۱۳۳۶ھ میں اس خاندان میں دارالافتاء کی بنیاد رکھی۔ (۲) مفتی رضا علی خان بریلوی کے وصال کے بعد ان کے لائق و فائق فرزند خاتم المحققین 'امام المدققین' حامی السننہ، ماحی بدعتہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تقی علی خان بریلوی قدس سرہ العزیز نے اس "مسند افتاء" کو رونق بخشی اور آپ ہی کی زندگی میں امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس اللہ سرہ العزیز نے اس "مسند افتاء" کی اہم ذمہ داری صرف ۱۳ سال کی عمر میں سنبھال لی۔ آپ خود اس سلسلے میں اپنے وصایا شریف میں

فرماتے ہیں۔

”میرے دادا صاحب (عارف باللہ سیدنا المولوی رضا علی خاں) علیہ الرحمہ نے مدت العمر یہ کام کیا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو اپنی جگہ میرے والد (سیدی ووالدی وولی نعمتی المولوی محمد نقی علی خاں) قدس سرہ العزیز کو چھوڑا۔ میں نے چودہ برس کی عمر میں ان سے یہ کام لے لیا۔ پھر چند روز بعد امامت بھی اپنے ذمہ لے لی۔ غرض کہ میں نے اپنی صغر سنی میں کوئی بار ان پر نہ آنے دیا۔“ (۳)

امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنے خاندان میں قائم دارالافتاء کی مسلسل ۵۵ برس (۱۲۸۶ھ تا ۱۳۴۰ھ) خدمت انجام دی۔ امام رضا کی حیات میں آپ کے سب سے چھوٹے بھائی مولانا مفتی محمد رضا خاں بریلوی (م۔ ۱۹۳۹ء) (۴) بھی فتویٰ نویسی فرماتے رہے۔ ساتھ ہی امام احمد رضا کے صاحبزادگان خلف اکبر حضرت مولانا مفتی حجتہ الاسلام مولوی محمد حامد رضا خاں قادری برکاتی بریلوی (م ۱۳۶۲ھ ر ۱۹۴۳ء) (۵) اور خلف اصغر مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد مصطفیٰ رضا خاں قادری نوری بریلوی (م ۱۳۰۲ھ ر ۱۹۸۱ء) (۶) بھی اپنی تمام عمر اسی دارالافتاء کی خدمت انجام دیتے رہے۔ آج جبکہ اس مسند افتاء کو قائم ہوئے ۱۶۲ برس ہو چکے ہیں، اس خانوادے کی خدمت افتاء فی سبیل اللہ جاری ہے۔ ان دنوں بریلی شریف کے مرکزی دارالافتاء میں مولانا مفتی محمد اختر رضا خاں قادری بریلوی الازہری ابن مولانا مفتی ابراہیم رضا خاں قادری بریلوی (م ۱۳۸۵ھ ر ۱۹۶۵ء) ابن مولانا مفتی حامد رضا خاں بریلوی اور مولانا مفتی سبحان رضا خاں قادری بریلوی ابن مولانا مفتی محمد سبحان رضا خاں قادری بریلوی (م ۱۳۰۲ھ ر ۱۹۸۵ء) ابن مولانا مفتی محمد ابراہیم رضا خاں قادری فتویٰ نویسی کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا سبحان رضا خاں کے انتقال کے بعد ان کے خلف اکبر مولانا سبحان رضا خاں

نے یہ مسند سنبھالی ہے احقر کے مطالعے کے مطابق برصغیر پاک و ہند کے چند علمی خانوادوں میں سے امام احمد رضا کا خانوادہ ایک ایسا خانوادہ ہے جو ڈیڑھ سو برس سے زیادہ عرصے سے فتویٰ نویسی کی مسلسل خدمت انجام دے رہا ہے یہ ایک بڑا اعزاز ہے جو اس خانوادے کو حاصل رہا ہے۔

امام احمد رضا جب اس مسند افتاء پر رونق افروز تھے اس وقت تمام اکناف عالم سے سوالات اور استفتاء آپ کے دارالافتاء پہنچتے تھے۔ بریلی شریف کی سرزمین سے عالم اسلام کا ”مجید اعظم“ تمام علوم و فنون کی روشنی دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے تک پہنچا رہا تھا اگرچہ آپ کے ہم عصروں میں بہت سارے مفتیان عرب و عجم بھی یہ خدمات انجام دے رہے تھے مگر جو مرکزیت پورے عالم اسلام میں آپ کو حاصل تھی وہ آپ کی حیات تک کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ آپ اپنے دور کے بڑے بڑے علماء و مشائخ اور مفتیان کے مرجع تھے۔ اسی لئے آپ کو چودھویں صدی ہجری کا ”مجید“ تسلیم کیا گیا۔ (۸)

راقم السطور اس مقالے سے قبل کئی مقالات مختلف علاقوں سے نسبت رکھنے والے علماء و مشائخ کے اعلیٰ حضرت سے رابطہ و تعلق کے حوالے سے قلم بند کرچکا ہے جنہوں نے مختلف معاملات اور جدید مسائل میں امام احمد رضا خان بریلوی کی طرف رجوع کیا مثلاً۔

(۱) امام احمد رضا اور علمائے بھرچونڈی شریف سکھر مطبوعہ ۱۹۹۳ء

(۲) امام احمد رضا اور علمائے کراچی مطبوعہ ۱۹۹۳ء

(۳) امام احمد رضا اور علمائے سندھ مطبوعہ ۱۹۹۵ء

(۴) امام احمد رضا اور علمائے ریاست بہاولپور مطبوعہ ۱۹۹۵ء

(۵) امام احمد رضا اور علمائے لاہور مطبوعہ ۱۹۹۶ء

الحمد للہ اس طرح کے مزید مقالات ابھی زیر تالیف ہیں جو مندرجہ ذیل

ہیں۔

- (۱) ... امام احمد رضا اور علمائے سرحد (ہزارہ، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، اٹک)
- (۲) ... امام احمد رضا اور علمائے بالائی پنجاب (پاکستان) (راولپنڈی، گوجرانوالہ، گولڑہ)
- (۳) ... امام احمد رضا اور علمائے مشرقی پنجاب (پاکستان) (گجرات، گوجرانوالہ، سیالکوٹ)
- (۴) ... امام احمد رضا اور علمائے مغربی پنجاب (پاکستان) (ڈیرہ غازی خان، تونسہ شریف)
- (۵) ... امام احمد رضا اور علمائے وسطی پنجاب (پاکستان) (سرگودھا، جہلم، بھیرہ، ملتان)
- (۶) ... امام احمد رضا اور علمائے بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ۔

اس مقالے میں صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مستفتیان کا تذکرہ شامل کیا گیا ہے۔ صوبہ بلوچستان رقبہ کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے یہ علاقہ زیادہ تر پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، اس کے مشرقی حصے میں کوہ سلیمان اور کوہ کیر تھر کے پہاڑی سلسلے ہیں جبکہ اس کا مغربی حصہ کوہ چاغی، کوہ خاران و مکران پر مشتمل ہے۔ زیر نظر مقالہ کی ترتیب کے مطابق صوبہ بلوچستان کے بن علاقوں سے علماء و مشائخ نے بریلی شریف، مختلف مسائل میں رجوع کیا ان بستیوں کا تعلق کوہ سلیمان اور کوہ کیر تھر کے علاقوں سے ہے اور اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

- (۱) ... مولانا مولوی قاضی قادر بخش بھلائی چوہڑ کوٹ بارکھان (۹)
- (۲) ... مولانا مستری احمد الدین فورٹ سنڈھین
- (۳) ... مولوی عبدالرشید خضدار

راقم نے ان تمام مستفتیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اور صرف بارکھان سے تعلق رکھنے والے مفتی مولوی قاضی قادر بخش صاحب

کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں بقیہ دو حضرات کا تذکرہ حاصل نہ ہو سکا۔ کئی سال سے راقم کو بلوچستان کے ان علماء سے متعلق جستجو تھی جن کے قلمی روابط امام احمد رضا سے قائم تھے۔ متعدد اہل قلم سے ان افراد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی بالاخر میرے ایک کرم فرما دوست معجبی عزیز پروفیسر محمد بخش قمر صاحب (۱۰) نے میرے ساتھ تعاون فرمایا اور کونٹہ میں رہتے ہوئے بارکھان کی بستی کے ایک معزز شخصیت جناب استاد حاجی کریم داد صاحب (۱۱) سے خط کے ذریعہ رابطہ قائم کروایا جن کا پہلا تفصیلی خط احقر کو ۲۱ ستمبر ۱۹۹۶ء کو موصول ہوا جو ۵ صفحات پر مشتمل تھا جس میں مولوی قاضی قادر بخش علیہ الرحمہ کے حالات تفصیل سے لکھے جو انہوں نے بارکھان میں موجود اس خاندان کے افراد سے حاصل کئے ہیں۔ حاجی کریم داد صاحب مدظلہ العالی نے احقر کا رابطہ مولوی قادر بخش کے بھتیجے مولوی اللہ یار چشتی (۱۲) سے کروادیا اور ان کا پہلا خط راقم کو ستمبر ۱۹۹۶ء کے آخر میں موصول ہوا اس طرح دو واسطوں کے بعد احقر کے تعلقات براہ راست مولوی قاضی قادر بخش کے خاندان سے قائم ہو گئے۔ جلد ہی مولوی اللہ یار صاحب زید مجدہ کی بار بار دعوت کے اسرار پر بارکھان کا دسمبر ۱۹۹۶ء میں دورہ بھی کیا اس دورہ میں احقر کے ساتھ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے مرکزی آفس سیکرٹری اور نوجوان محقق عزیزم ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری سلمہ بھی تھے۔

راقم السطور نے اس مطالعاتی دورے میں بارکھان میں آباد قاضی قادر بخش علیہ الرحمہ کے خاندان کے کئی لوگوں سے ملاقات کی اور تبادلہ خیال کیا اور مفید معلومات حاصل کیں۔ قاضی قادر بخش کی اگرچہ کوئی نرینہ اولاد نہ تھی اس لئے تمام تر معلومات ان کے ایک حقیقی بھائی مولوی کریم بخش جو ابھی ماشاء اللہ حیات میں کافی ضعیف ہیں لگ بھگ ۸۸ سال کی عمر شریف ہے اور دوسرے ان کے بھتیجے مولوی اللہ یار چشتی ابن مولوی احمد یار (م ۱۹۹۲ء) سے حاصل کیں۔ اس خاندان اور خانوادے کی تمام معلومات زبانی اور سینہ بہ سینہ روایات پر مشتمل ہیں

کیونکہ اس خاندان کے اسلاف کا کوئی قلمی تذکرہ موجود نہیں ہے اگرچہ ان کے کتب خانے میں آج بھی سینکڑوں کتابیں محفوظ ہیں لیکن خود خاندان کے حالات کسی نے قلم بند نہیں فرمائے مگر بقول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا

بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں
مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا

(حدائق بخشش)

مولانا قاضی قادر بخش بگلانی

قاضی قادر بخش ابن مولوی قاضی محمد یار بروز پیر شوال المعظم کے مہینے میں ۱۲۸۶ھ میں تحصیل تونسہ شریف کی ایک بستی بگلانی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی مادری زبان سرائیکی تھی اور خاندان رند بلوچ تھا۔ آپ نے ابتدائی دینی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی کچھ عرصہ تونسہ شریف میں بھی زیر تعلیم رہے بعد میں مزید تعلیم کے لئے ہند کا رخ کیا اور لکھنؤ کے ایک مدرسے میں ۱۳ سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے اس کے علاوہ اور بھی کئی شہروں میں حصول علم کے لئے تشریف لے گئے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر واپس چوہڑ کوٹ بارکھان تشریف لائے اور یہاں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا مگر باقاعدہ کوئی دینی مدرسہ یا دارالعلوم قائم نہیں کیا البتہ قرآن و حدیث کا درس اپنی خانقاہ اور مسجد میں دیتے رہے۔ عربی، فارسی اور اردو زبان پر بھی مکمل دسترس حاصل کی آپ کی تحریر عموماً "فارسی زبان میں ہوتی تھی۔"

آپ کی شادی خانہ آبادی دیر سے جمادی الاخر ۱۳۲۹ھ میں مائی غلام جنت سے ہوئی آپ کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی اور زوجہ کا انتقال آپ کے وصال سے چند ماہ قبل ۱۳۳۰ھ میں ہوا جبکہ آپ کا وصال مبارک ۱۳ ذی قعدہ ۱۳۳۰ھ میں ہوا۔

آپ کا مزار مبارک لب سڑک چوہڑکوٹ کے قبرستان میں ہے جہاں ہر سال عرس بھی منایا جاتا ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر صرف ایک چادر پڑی ہے نہ کوئی کتبہ ہے اور نہ ہی کوئی گنبد۔ فقیر کے استفسار پر مولوی اللہ یار چشتی نے بتایا کہ ہم نے کئی دفع گنبد وغیرہ بنانے کی کوشش کی مگر ہر دفعہ چچا صاحب نے خواب میں آکر منع فرمادیا ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ خود ان کے والد ماجد مولوی احمد یار پر بھی کوئی گنبد اور کتبہ اس لئے نہیں ہے کہ یہ حضرت اپنے فقیرانہ مزاج کی بناء پر پسند نہیں فرماتے۔

قاضی قادر بخش بھگلانی کا سلسلہ بیعت تونسہ شریف کے سلسلہ سلیمانہ کے بزرگ حضرت خواجہ محمد حامد تونسوی علیہ الرحمہ (م ۱۳۵۰ھ / ۱۹۳۱ء) ابن صاحبزادہ حضرت خواجہ حافظ محمد موسیٰ تونسوی علیہ الرحمہ (م ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۶ء) ابن حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی علیہ الرحمہ (۱۳) (م ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱ء) سے تھا۔ آپ کو خلافت و اجازت بھی حاصل تھی مگر زندگی میں کسی کو بیعت نہ فرمایا۔

خاندان اور شجرہ نسب

مولوی کریم بخش مدظلہ العالی نے اپنے خاندان اور اسلاف کا شجرہ نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے خاندان کے مورث اعلیٰ مولوی قاضی علی محمد علیہ الرحمہ تھے آپ بھگلانی بستی کے معروف عالم دین اور فاضل تھے۔ ہمارے خاندان میں آپ کو سب سے پہلے علاقہ کا قاضی ہونے کا شرف حاصل ہوا اور پانچ پشت تک یہ سلسلہ خاندان میں قائم رہا اور مولوی قاضی قادر بخش کے بعد اس خاندان میں کوئی عالم پیدا نہ ہوا۔ ہمارے خاندان میں قاضی قادر بخش نے بہت شہرت حاصل کی لیکن آپ کے وصال کے بعد یہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔

خاندانی شجرہ

قاضی علی محمد

قاضی اللہ یار

قاضی احمد یار

قاضی محمد یار

احمد یار اللہ بخش قاضی قادر بخش خدا بخش کریم بخش
(اولد) (اولد)

خاندانی حالات

مولوی قاضی بخش بھلائی کا خاندانی تیرہویں صدر ہجری کے نصف تک پنجاب کے علاقہ ضلع ڈیرہ غازی خاں کی تحصیل تونسہ شریف کی ایک بستی بھلان میں آباد تھا۔ قاضی قادر بخش کے والد ماجد مولوی قاضی محمد یار (المتوفی ۱۷۷۳) میں آکر آباد ہو گئے اور قاضی محمد یار صاحب مقامی مسجد میں امامت فرمانے لگے۔ مولوی کریم بخش مدظلہ العالی نے اپنے خاندان کی بھلائی سے چوہڑکوٹ بارکھان بلوچستان نقل مکانی کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا!

جب ہمارا خاندان بھلان کی بستی میں آباد تھا تو والد صاحب (مولوی محمد یار) کے خاندان میں ایک وٹہ کے رشتے کے سلسلے میں تنازعہ پیدا ہو گیا۔ والد صاحب از روئے شریعت وٹہ کے رشتہ (جس میں ایک گھر سے لڑکی اس شرط پر لی جاتی ہے کہ اس گھر کو اپنی لڑکی دی بھی جائے) کو ضروری نہیں سمجھتے تھے اور اگر شرطیہ ایسا کیا جائے تو اس کا ناجائز تصور کرتے تھے اتفاق سے خاندان میں ایسے ایک رشتہ کا سلسلہ شروع ہوا اور رشتہ داروں نے وٹہ کے بغیر رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور یہ

اسلئے ایک تنازعہ بن گیا والد صاحب اسی تنازعہ کے باعث ناراض ہو کر نقل مکانی کرتے ہوئے چوہڑکوٹ تشریف لے آئے اور پھر مستقل یہیں آباد ہو گئے۔ اب یہ مہاندان چوہڑکوٹ کے بجائے بارکھان میں آباد ہے۔ مولوی محمد یار علیہ الرحمہ کا انتقال ۱۳۳۲ھ میں چوہڑکوٹ میں انتقال ہوا مگر آپ کا مزار آبائی قبرستان بھلائی میں مرجع آج بھی خلائق ہے اور ہر سال عرس بھی کیا جاتا ہے اور مزار پر باقاعدہ لشکر کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔

مولوی کریم بخش صاحب نے مزید فرمایا:

ہمارے دادا مولوی قاضی حافظ احمد یار حافظ قرآن اور عالم و فاضل تھے اور نونہ شریف کے بزرگوں سے بیعت تھے دادا جان کا وصال ۱۳۲۵ھ میں ہوا تھا آپ کا مزار بھی بھلائی کے آبائی قبرستان میں ہے آپ ہی کے نام پر والد صاحب نے مجھ سے بڑے بھائی کا نام مولوی احمد یار رکھا تھا جب کہ مولوی احمد یار نے اپنے بیٹے کا نام محمد یار اور دوسرے بیٹے کا نام اپنے پر دادا قاضی اللہ یار کے نام پر مولوی اللہ یار رکھا تھا۔ ہمارے بقیہ بھائیوں کے نام کے ساتھ بخش لگا ہے اپنے تمام بھائیوں کی تفصیل اور مختصر حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم ۱۰ بھائی ہیں تھے اور میں سب بھائی بہنوں میں چھوٹا تھا سب کا انتقال ہو گیا فقیرا بھی زندہ ہے اور تقریباً ۸۸ برس کی عمر ہو گئی ہے۔ اب ملاحظہ کیجئے ان تمام بھائیوں کی تفصیل جو مولوی محمد یار کے صاحبزادگان ہیں۔

۔ مولوی اللہ بخش

آپ مولوی محمد یار کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی شادی ۱۷

شعبان المعظم ۱۳۲۷ھ کو ہوئی اور وصال ۱۳۲۱ھ میں ہوا آپ کی قبر بغلانی کے آبائی قبرستان میں ہے۔ آپ اگرچہ اولاد میں سب سے بڑے تھے مگر والد صاحب نے انتقال سے قبل آپ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مولوی قادر بخش کو خاندان کی دستار فضیلت دی جائے چنانچہ مولوی اللہ بخش نے مولوی قادر بخش کو جس خط میں والد ماجد کے انتقال پر ملال کی خبر دی تھی اسی خط میں اس وصیت کا اظہار بھی فرمایا تھا وہ خط اس خاندان میں آج بھی محفوظ ہے اس کا عکس احقر کے پاس موجود ہے اس خط کی چند عبارتیں ملاحظہ کیجئے۔ یہ خط ۱۰ صفر المظفر ۱۳۲۳ھ کو لکھا گیا ہے۔

بخدمت برادر م صاحب

برادر م عزیز مولوی صاحب مولوی قادر بخش خان

بعد از نیاز!

اس جگہ ہر وجہ سے خیر خیریت ہے اور آپ کی خیر و عافیت ہر وقت نیک اللہ پاک سے چاہتا ہوں۔ احوال آنکہ پہلے جمعہ شریف کی رات روانہ کر چکا ہوں (یعنی انتقال کے فوراً بعد خط ڈال چکے تھے)۔ برادر م جمعہ شریف ۱۳۲۳ صفر المظفر ۱۳۲۳ھ کو بوقت دوپہر جناب قبلہ دو جہاں کا سایہ آسمان ہمارے سر سے اٹھ گیا ہے جناب والد صاحب رخصت ہم سے ہو کر سچا جہاں پر چلا گیا ہے مگر حکم ربی اللہ پاک جناب والد صاحب کو جنت فردوس عطا فرمادیں۔

آمین ثمہ آمین قالوا اللہ وانا الیہ راجعون

برادر م صاحب آپ موجا (غمگین) مت ہویں اللہ پاک تمام ہی برادران کو خوش و خرم فرمادے آمین.....

دوسری وصیت کا بیان میں آپ کا دستار کا فرمایا کہ میری دستار مولوی قادر بخش کو دیوں..... برادر م صاحب آپ پر ہم دستار بندی کرتا ہوں تمامی کام آپ کا اختیار ہے..... برادر م صاحب کوئی معجھ کو غم نہیں ہم دعا مانگتا ہوں اللہ پاک

آپ کی عمر دراز فرمائے آمین..... اور آپ میرے والد صاحب کی جگہ پر ہیں.....
آپ کوئی غم نہ کریں کیونکہ والد صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ غم نہ
کریں..... وفات والد صاحب تاریخ ۷ صفر ۱۳۳۳ء بوقت دوپہر۔ دفن شام کو ہوا
جمعہ شریف کا دن تھا.....

اللہ بخش بقلم خود

مولوی اللہ بخش کے ہاں ایک بیٹا محمد یار پیدا ہوا جن کی اولاد محمد اسمعیل اور
محمد ابرہیم آج موجود ہیں اور بار کھان میں محنت مزدوری کر کے رزق حلال سے اپنا
گھر چلا رہے ہیں۔

۲۔ مولوی قاضی قادر بخش

آپ ہمارے بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے مگر علم و فضل میں سب سے
ممتاز تھے اور والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ ہی نے اس خاندان کے علمی ورثہ کو
آگے بڑھایا اور آپ کے وصال کے بعد اس خاندان میں علم و فضل کا چراغ ابھی
تک دوبارہ روشن نہ ہو سکا۔ آپ لا ولد تھے مگر اولاد کی تمنا بہت رکھتے تھے اور اس کا
اظہار انہوں نے اپنی کتابوں پر فدوی اللہ دتہ عفی عنہ لکھ کر کیا۔ راقم نے کئی
کتابوں پر اس عبارت کو لکھا ہوا دیکھا ہے۔

۳۔ مولوی خدا بخش

آپ ۱۷ رمضان المبارک بروز بدھ ۱۳۱۸ھ میں پیدا ہوئے۔ زیادہ تعلیم
حاصل نہ کر سکے پیشہ کے اعتبار سے پوسٹ مین تھے اور آپ بھی لا ولد فوت ہوئے

آپ کے قبر بھی بنگلانی کے قبرستان میں ہے۔

۴۔ مولوی احمد یار

آپ ہم بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھے۔ آپ کا نام ہمارے دادا جان کے نام پر رکھا گیا آپ کی پیدائش ۲ شوال ۱۳۲۵ھ اور وصال طویل عمر کے بعد ۱۳۱۳ھ ر ۱۹۹۳ء کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بارکھان کے مرکزی قبرستان میں ہے۔ (آپ کے مزار پر بھی احقر کو حاضری کا موقعہ میسر آیا)۔ بارکھان کے باشندوں نے بتایا کہ آپ صوم و صلوة کی پابندی کے ساتھ ساتھ مسلک اہلسنت پر سختی سے کاربند تھے۔ آپ کے وصال تک تبلیغی جماعت اور دیگر بد مذہب جماعتیں سر نہیں اٹھا سکیں۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق ۱۹۷۰ تک اس بستی کے لوگ کسی دوسرے بد مذہب کے نام سے بھی واقف نہ تھے صرف اور صرف اہلسنت و جماعت کا مذہب رائج تھے آج بھی بارکھان کی ۹۵ فیصد آبادی مسلک اہلسنت و جماعت ہے چند شیعہ اور چند وہابی تبلیغی لوگ اب پائے جانے لگے ہیں۔

مولوی احمد یار بھی تونسہ شریف کے سجادہ نشین حضرت مولانا حافظ غلام سدید الدین تونسوی (م ۱۳ شوال ۱۳۷۹ھ ر ۱۱ اپریل ۱۹۶۰ء) (۱۴) ولد صاحبزادہ محمد حامد تونسوی علیہ الرحمہ سے بیعت تھے اور ساتھ ہی خلیفہ مجاز بھی، مگر آپ نے بھی اپنے سلسلے روحانی کا آغاز نہیں فرمایا۔ آپ سے دو صاحبزادے ہوئے مولوی عامل صوفی اللہ یار چشتی اور ماسٹر محمد یار جو اسکول میں استاد ہیں ابھی حیات ہیں۔

۵۔ مولوی کریم بخش

آپ تمام بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے اور ابھی ماشا اللہ حیات

ہیں۔ آپ کی پیدائش ۲۷ رجب المرجب بروز جمعہ ۱۳۳۰ھ جو ہے جس وقت مولوی قادر بخش کا انتقال ہوا آپ کی عمر ۱۱-۱۲ سال کی تھی آپ باشرع اور سادہ طبیعت انسان ہیں۔ سر پر سفید عمامہ باندھتے ہیں۔ آپ نے احقر پر بہت شفقت فرمائی اور کئی گھنٹے کی نست آپ کے ساتھ رہی جس میں آپ اپنے اسلاف اور قادر بخش علیہ الرحمہ کے متعلق باتیں بتاتے رہے۔ آپ کے پانچ صاحبزادے ہیں سب سے بڑے ماسٹر جمعہ خاں مقامی اسکول میں ٹیچر ہیں۔ ایک عبداللہ نام کے صاحبزادے معزور ہیں اور بقیہ ۳ صاحبزادے (غلام) مصطفیٰ احمد نواز اور محمد بارکھان میں مزدوری کرتے ہیں۔ اس خاندان میں پردے کا اب بھی سخت رواج ہے۔ مولوی قادر بخش کے خاندان کو بارکھان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

اعلیٰ حضرت سے اس خاندان کی وابستگی

امام احمد رضا خاں محدث بریلوی قدس سرہ العزیز کا نام اس خاندان میں اعلیٰ حضرت بریلوی کے نام سے زیادہ مشہور ہے مولوی کریم بخش صاحب مدظلہ العالی و مولوی اللہ یار چشتی اعلیٰ حضرت کے مسلک کے پیروکار ہیں اور وہابیہ و دیگر مذہب پر سختی فرماتے ہیں اور عقائد میں اعلیٰ حضرت کی کتب کے حوالے ازبر ہیں بالخصوص مولوی اللہ یار زید مجددہ اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کے پر تو ہیں۔

دشمن احمد پہ شدت کیجئے
 طہوں کی کیا موت کیجئے
 غیظ میں جلد جائیں بے دینوں کے دل
 یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کثرت کہجئے

(حدائق بخشش)

آپ کے خاندان میں ایک روایت سینہ ب سینہ بہت مشہور چلی آرہی ہے جس کے باعث اعلیٰ حضرت کا چرچا ان کی زبانوں پر آج بھی قائم ہے، ان حضرات نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی کی بارکھان آمد کا واقعہ احقر کو سنایا اس سے قبل خطوط میں یہ مجھے لکھ کر بھیج چکے تھے۔ مولوی کریم بخش مدظلہ العالی نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ۔

بارکھان کے علاقے میں ایک شخص کی منگنی ایک لڑکی سے طے ہوئی۔ حسن اتفاق سے منگنی کی رسم کے بعد لڑکی کا والد (یعنی لڑکے کے ہونے والے خسر) کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص نے منگنیتر کی بجائے اس کی ماں (اپنی ہونے والی ساس) سے نکاح کر لیا معاملہ جب قادر قادر بخش کے پاس آیا تو آپ نے اس نکاح کو جائز قرار دیا (کیونکہ منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے) کیونکہ ابھی وہ اس کی منکوحہ نہ تھی آپ نے اس نکاح کے جواز میں فتویٰ کی شکل میں تحریر بھی لکھ کر دی۔ یہ واقعہ قاضی قادر بخش کے وصال سے ۳-۴ سال قبل کا ہے اور مولوی کریم بخش فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر ۸-۹ سال کی تھی اور بڑے بھائی احمد یار مجھ سے ہوشیار تھے وہ بھی اس واقعہ کو اکثر بیان فرماتے تھے۔

قاضی قادر بخش کے اس فتوے کو ان کے ہم ایک عصر عالم دین مولوی میر خان (۱۵) نے رد فرماتے ہوئے اس نکاح کو ناجائز قرار دیا کہ ساس کے ساتھ نکاح جائز نہیں بات بڑھتے بڑھتے کمرہ عدالت پہنچی اور مقدمہ دائر کر دیا گیا۔

قاضی قادر بخش علیہ الرحمہ نے علماء کی طرف رجوع کیا اور ان کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے بارکھان چوہڑ کوٹ آنے کی دعوت بھی دی چنانچہ ۴ علمائے کرام تشریف لائے ان میں سے تین نام مندرجہ ذیل ہیں چوتھا نام مولوی کریم بخش مدظلہ العالی کو یاد نہیں آیا۔

۱۔ اعلیٰ حضرت بریلی شریف

۲۔ مولوی فضل حق ڈی جی خاں

۳۔ مولوی شاہنواز چوٹی زبیریں (ڈی جی خاں)

مولوی قادر بخش صاحب نے سب سے تبادلہ خیال کیا اور جس دن عدالت میں پیشی تھی آپ وہاں پہنچے اور مولوی میرخاں کی ان کتابوں سے متعدد حوالے اپنے حق میں دئے جو کتابیں مولوی میرخاں خود اپنی تائید کے لئے اپنے ساتھ لائے تھے۔ مولوی میرخاں نے آخر کار قادر بخش کی بات تسلیم کی اپنا فتویٰ واپس لیا اور معذرت بھی کی۔ اس واقعہ سے مولوی قادر بخش کو بڑی شہرت ملی اور دوسرے اعلیٰ حضرت کی تشریف آوری سے کہ اتنے بڑے عالم ان کی حمایت میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ روایت کے مطابق یہ تمام حضرات بعد میں کسی جلسے کے سلسلے میں لاہور پہنچے اور لاہور کے جلسے میں مولانا احمد رضا خاں کی موجودگی میں مولوی قادر بخش صاحب نے تقریر فرمائی جس کو اعلیٰ حضرت نے بہت پسند فرمایا اور اپنے جذبات کا ان الفاظ میں اظہار خیال فرمایا۔

”واقعی جنگل میں شیر ہوتے ہیں“

اس واقعہ کا کوئی قلمی ثبوت موجود نہیں ہے لیکن اس واقعہ کو ان کے خاندان میں بہت شہرت حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلی والے ہمارے ملک بارکھان چوہر کوٹ تشریف لائے تھے۔ مولوی کریم بخش صاحب نے بتایا کہ اس موقع پر اعلیٰ حضرت نے اپنے کئی رسائل بھائی کو پیش کئے تھے جو آج بھی ہمارے کتب خانے میں موجود ہیں فقیر نے ان رسائل کی زیارت بھی کی وہ مندرجہ ذیل رسائل ہیں:-

۱۔ السوء و العقاب علی المصیح الکتاب ۱۳۲۰ھ (مطالعہ کی تاریخ ۲۵

شعبان ۱۳۳۶ھ)

۲۔ ازالۃ العار بحجر الکرائم عن کلاب النار ۱۳۲۶ھ (مطالعہ کی تاریخ

۲۲ شعبان ۱۳۳۶ھ)

۳- ردالمفید، ۱۳۲۰ھ (مطالعہ کی تاریخ ۲ شعبان ۱۳۳۶ھ)

۴- ایقان الاجرفی اذان القبر ۱۳۰۱ھ

۵- بقی المنان بشوع المزار ۱۳۳۱ھ (مطالعہ کی تاریخ ۲۲ شعبان ۱۳۳۶ھ)

۶- لمعہ الضعی فی اعفاء للخی ۱۳۱۵ھ

ان تمام رسائل کے سرورق پر مولوی قاضی قادر بخش صاحب علیہ الرحمۃ نے جو عبارت تحریر فرمائی ہے وہ اس طرح ہے ملکیت فقیر مولوی قادر بخش مصنف مولوی احمد رضا خاں مجدد مائتہ حاضرہ اول سے آخر تک مطالعہ لیا گیا بقلم فقیر قادر بخش عفی عنہ

(ساکن تحصیل بارکھان بلوچستان ۱۳۳۶ھ)

اس کے علاوہ بھی آپ کے کتب خانے میں جو کتب بھی موجود ہیں ان سب پر آپ کی دستخط موجود ہے اور جن جن کا مطالعہ کیا ہے اس پر لکھ بھی دیا ہے۔ کئی کتابوں پر مختصر حاشیہ آرائی بھی فرمائی ہے اور فتاویٰ ہایونی مصنف مفتی عبدالغفور ہایونی جو فارسی زبان میں ہے اس پر کئی جگہ آپ نے حاشیہ آرائی فرمائی ہے مثلاً فتاویٰ ہایونی جلد اول ص ۱۷۸ کے مندرجہ ذیل سوال پر حاشیہ تحریر فرمایا ہے۔

سوال... اگر در شہر نرخ چیزی یکے باشد و شخصے در آن شہر از نرخ مروجہ شہر کم کردہ یا زیادہ کردہ آن چیزی فروشد آیا اس چہنن کردن جائز است یا نہ؟
اس سوال پر قادر بخش کا حاشیہ ملاحظہ کیجئے

”در متفرقات کنز العباد از کافی گفتہ کہ پرہیز کن از بیع نہ عنہ کہ آن معین است و اختراع ربوا خوردن و در کنایہ شرح وقایہ گفتہ کہ بیع عنہ آن است کہ یکے از تاجرے طلب قرض کندوے قرض نہدہد بلکہ بوے رختے وہد

و بدست اوباکثر از قیمت بغروشده فتاری بر بند ۱۲ (ج ۲ فصل ربع ص ۱۶۱)
 خادم العلماء فقیر قادر بخش عفی عنہ بقلم خود ۲۸ شعبان ۱۳۳۵ھ

قلمی نوادرات

قاضی قادر بخش کی باقاعدہ کوئی تصنیف نہیں ہے البتہ آپ کے کتب خانے میں موجود کتابوں کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ جگہ جگہ مختصر حاشیہ لکھے ہیں جیسا کہ فتاویٰ ہمایوں کے ایک صفحہ کا حاشیہ اور پر لکھا گیا ہے اکثر و بیشتر حواشی آپ نے فارسی زبان میں تحریر کئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ سے نقل کی ہوئی کئی عربی فارسی کتب کے نسخے بھی ملے ہیں جن کو آپ شوقاً تحریر فرماتے تھے یا ممکن ہے کہ وہ کتاب ان کے کتب خانہ میں موجود نہ ہو اس کو نقل فرمالتے ہوں۔

مولوی اللہ یار زید مجدہ نے ایک مجلد کتاب احقر کو مطالعہ کے لئے دی جس میں کئی موضوعات پر چھوٹے بڑے رسائل خود ان کی تحریر میں نقل کئے ہوئے موجود ہیں اور بعض دیگر رسائل کسی کاتب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے بھی ہیں۔ ان ہی رسائل کے ساتھ قرآن پاک کی فارسی زبان میں تفسیر بھی موجود ہے جو بقول مولوی اللہ یار صاحب یہ چچا مولوی قادر بخش قدس سرہ العزیز کی لکھی ہوئی تفسیر ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

یہ تفسیر سورہ نوح کی ۱۲۷ آیت سے شروع ہو کر سورہ اخلاص تک موجود ہے آخری دو سورتوں کی تفسیر موجود نہیں ہے اور بقیہ سورہ نوح سے قبل کی تفسیر بھی نہیں ہے سرورق بھی موجود نہیں ہے اور یہ بھی کاتب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے کیونکہ اس کا خط مولوی قادر بخش کے خط سے مختلف ہے اس لئے فقیر کے خیال میں یہ تفسیر اس وقت تک مولوی قادر بخش کی

طرف منسوب نہیں کی جاسکتی جب تک کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ احقر کے خیال میں جس طرح اور بہت سی کتابیں ان کے کتب خانے میں نقل کی صورت میں موجود ہیں ممکن ہے اسی طرح یہ بھی کسی تفسیر کی نقل ہو، لیکن مولوی اللہ یار اپنے خاندان کی روایت کے مطابق اسکو چچا قاضی قادر بخش کی طرف ہی نسبت کرتے ہیں۔ اس کے ایک صفحہ کا عکس آخر میں دیا جا رہا ہے۔

قاضی قادر بخش صاحب کے ہاتھ سے لکھے ہوئے جمعہ و عیدین کے خطبے بھی ملے جس کو انہوں نے نقل فرمایا اور یہ خطبات مولوی غلام رسول ولد خدا بخش کے ہیں ان خطبوں کا فارسی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ قاضی قادر بخش کی تحریر میں موجود ہے آپ کے کتب خانے میں کئی کاغذ ایسے ملے جن پر مثنوی مولانا روم علیہ الرحمہ کے اشعار تحریر تھے اور یہ تمام قاضی قادر بخش کے ہاتھ کی تحریر ہے اور ان کے دستخط بھی جگہ جگہ موجود ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ مثنوی مولانا روم کا زبان پر اکثر ورد رکھتے تھے کیونکہ جگہ جگہ مختلف کتابوں پر بھی مولانا روم کی ابیات قادر بخش صاحب کے دستخط کے ساتھ تحریر ہیں۔

آپ کی تحریروں میں صرف ایک فتویٰ آپ کے کتب خانے سے حاصل ہوا جو فارسی زبان میں ہے اور یہ فتویٰ دودھ کے رشتوں میں نکاح سے متعلق ہے اس کا عکس بھی آخر میں دیا گیا ہے آپ نے یہ فتویٰ ۲۲ ربیع الاول ۱۳۳۳ھ میں لکھا تھا اور اس پر دستخط کے ساتھ یہ عبارت موجود ہے۔

خادم العلماء فقیر قادر بخش عفی عنہ

متوطن بھلائی متعلقہ تونسہ فی الحال ساکن

چوہڑ کوٹ بارکھان بقلم خود

آپ کے خطوط میں سے بھی چند خط کتب خانے میں موجود ہیں جو آپ

نے مختلف علما کو تحریر فرمائے تھے

۱۔ خط بنام محمد بخش قاضی و مفتی چوٹی زبیریں (ڈی جی خاں)

۲۔ خط بنام مولوی سردار محمد حسین

۳۔ خط بنام مولوی محمد ناصر الدین

ان خطوط کے علاوہ ایک خط لاہور شہر سے کسی عالم کا آپ کے نام موجود ہے ایک اور خط خانقاہ تونسہ شریف کے سجادہ نشین صاحبزادہ محمد حامد تونسوی کا قاضی صاحب کے والد قاضی محمد یار کے نام موجود ہے۔

فقیر نے جب استفسار کیا کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی خط آپ حضرات کے پاس ہے تو فرمایا، کئی خطوط تھے لیکن تونسہ شریف کے سجادگان نہ صرف یہ خطوط بلکہ ہمارے خاندان کے کئی نوادرات قاضی قادر بخش کے وصال کے بعد اپنے ساتھ لے گئے اور پیر خانے کے باعث ہم نے دوبارہ طلب نہیں کئے۔

مولوی قاضی قادر بخش کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز سے تعلقات کب قائم ہوئے اس کا صحیح تعین تو نہیں کیا جاسکتا البتہ خاندانی روایت کی مطابق آپ یہاں ۱۳۳۶ھ میں تشریف لائے تھے تو یقیناً اس سے قبل تعلقات قائم ہوئے ہوں گے۔ مولوی قاضی قادر بخش علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت کو مجددین و ملت تسلیم کرتے تھے جس کا ثبوت ان کی ان تحریروں میں ہے جو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتب و رسائل پر اپنے قلم سے تحریر کی ہیں جس میں آپ کو ”مجدد مائتہ حاضرہ“ لکھا ہے قاضی قادر بخش صاحب نے تعلقات قائم ہونے کے بعد ۳ دفعہ مختلف مسائل میں اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع فرمایا تھا سب سے پہلی تحریر جو استفتاء کی صورت میں آپ نے اعلیٰ حضرت کو بریلی روانہ فرائی وہ ۲۱ محرم ۱۳۳۷ھ میں ارسال تھی جو استفتاء اردو زبان میں ہے اس کے بعد ۲۲ ربیع الاول ۱۳۳۷ھ میں آپ نے مختلف

مہائل میں ۸ عدد استفتاء ایک ساتھ روانہ کیئے اور آخری استفتاء آپ نے ۵ ربیع الاخر ۱۳۳۸ھ میں روانہ کیا تھا ان تمام استفتاء میں آپ نے یہ عبارت تحریر فرمائی۔

”از چوہڑ کوٹ بارکھان ملک بلوچستان مرسلہ قادر بخش“

ان استفتاء کو فتاویٰ رضویہ کی مختلف جلدوں میں دیکھا جاسکتا ہے جس کی تفصیل یوں ہے۔

- ۱۔ فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۱۵۵
- ۲۔ فتاویٰ رضویہ جلد سوم ص ۶۰۱
- ۳۔ فتاویٰ رضویہ جلد سوم ص ۶۲۲
- ۴۔ فتاویٰ رضویہ جلد چہارم ص ۱۱۶
- ۵۔ فتاویٰ رضویہ جلد پنجم حصہ اول ص ۷۰
- ۶۔ فتاویٰ رضویہ جلد پنجم حصہ پنجم ص ۳۶۶
- ۷۔ فتاویٰ رضویہ جلد ہفتم ص ۹۹
- ۸۔ فتاویٰ رضویہ جلد ہشتم ص ۳۱۹
- ۹۔ فتاویٰ رضویہ جلد نہم ص ۶۶
- ۱۰۔ فتاویٰ رضویہ جلد نہم ص ۱۵۵

ان تمام استفتاء کا عکس آخر میں ملاحظہ کیجئے

مولوی قادر بخش علیہ الرحمہ نے امام احمد رضا کے وصال کے بعد بھی بریلی شریف کے مرکزی دارالافتاء سے رابطہ قائم رکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد کئی سال تک بریلی شریف کے اس مرکزی دارالافتاء سے امام احمد رضا کے صاحبزادہ گان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اجل حضرت مولانا مفتی حکیم محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ (۱۱) (م) - ۱۳۶۷ھ ر ۱۹۲۸ء) فتاویٰ نویسی فرماتے رہے۔ مولوی قاضی قادر بخش کے دو استفتاء امام

احمد رضا علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد مولوی حکیم مفتی امجد علی اعظمی کے نام بریلی شریف پہنچے یہ دونوں استفتاء قاضی صاحب نے وصال سے ۶ ماہ قبل روانہ کئے تھے یہ دونوں استفتاء بھی فارسی زبان میں ہیں ان کے عکس بھی ملاحظہ کیجئے جو فتاویٰ امجدیہ کی تیسری جلد کے صفحہ ۲۷۰ اور صفحہ ۳۲۵ پر درج ہیں۔ (۱۷)

بلوچستان صوبہ سے بارکھان کے علاوہ فورٹ سنڈے من سے مولوی مستری احمد الدین نے ۱۳۳۶ھ میں ایک استفتاء بریلی شریف بھیجا تھا اور مولوی عبدالرشید نے بلوچستان کے علاقے خضدار کی بستی سے ایک استفتاء بریلی روانہ کیا تھا۔ افسوس کے ان دو حضرات کے کوائف اور حالات ہنوز ابھی تک حاصل نہیں ہو سکے۔

فورٹ سنڈیمین کا علاقہ صوبہ بلوچستان کے عین شمال میں واقع ہے اور صوبہ سرحد کے جنوبی علاقے وزیرستان سے ۱۰۰ کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ کوہ سلیمانہ کا شمالی پہاڑی سلسلہ ہے اس دور دراز علاقے سے مولوی مستری احمد الدین نے ایک استفتاء ۳۰ جمادی الاول ۱۳۳۶ھ میں بھیجا۔ استفتاء سے قبل چند سوالات ہیں جن کا جواب ایک دیوبندی عالم مولوی سید بادشاہ ابن مولوی سید محمد صدیق اخونزادہ نے دیا ہے ان جوابات کی روشنی میں احمد الدین نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ کیا ایسے عقائد رکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور اگر کوئی دیوبندی عالم ہو اور اس قسم کے اس کے خیالات ہوں جو اس کے جواب میں ظاہر ہیں تو آیا اس کو مسجد کا امام بنایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس کا اعلیٰ حضرت نے جواب یہ دیا ہے کہ ان عقائد والوں کو علمائے حرمین طہین کافر قرار دے چکے ہیں لہذا ان کو ہرگز امام نہ بنایا جائے۔ اس فتوے کا کھل عکس بھی ملاحظہ کیجئے۔ (۱۸)

اس فتوے سے ظاہر ہوتا ہے کہ احمد الدین جس علاقے سے تعلق

رکھتے ہیں اس علاقے میں یہ دیوبندیوں اور وہابیت کانیا نیا معاملہ پیش آیا تھا وہابی دیوبندی عالم وہاں پہنچ کر عوام الناس کے عقائد کے خلاف گفتگو کر رہے ہوں گے اس لئے یہ استفتاء بھیجا گیا کہ آیا ایسے شخص کو امام بھی رکھا جائے یا نہیں۔ تاریخی تو اتر سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقہ کے مسلمان صدیوں سے اہلسنت و جماعت کے عقیدوں پر کاربند تھے لیکن ان پختون علاقوں میں جب اس قسم کی ملاوٹ ہونے لگی تو وہاں کے علماء ان کی منافقت کو نہیں پہچان سکے اور جب مطلع دھندلہ نظر آیا تو انہوں نے علماء سے استفتاء کیا اعلیٰ حضرت کی ذات اس وقت چونکہ تمام عالم کے لئے مرجع خلافت تھی اس لئے آپ سے ان لوگوں کے متعلق حرف آخر طلب کیا گیا اور مسلمانوں کو ان کے فریب سے بچانے کی کوشش کی گئی آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ امام احمد رضا جو خود پختون نسل (۱۹) سے ہیں ان کا اور ان کی تعلیم یعنی محبت رسول کا تعارف صوبہ سرحد اور بلوچستان میں عام کیا جائے تاکہ یہاں کے مقامی باشندے اپنے اصل مذہب کی طرف رجوع لائیں جو آج سے ۱۰۰ سال قبل ان کا تھا۔

بلوچستان کے پہاڑی سلسلہ کیرتھر میں کراچی اور کوئٹہ کے بالکل درمیان میں ایک مقام خضدار ہے جو سطح سمندر سے تقریباً ۲۰۰۰ فٹ بلند ہے اس علاقے سے مولوی عبدالرشید صاحب نے اذان اور امامت سے متعلق ایک استفتاء بریلی شریف معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا یہ استفتاء ۱۳۳۶ھ کا ہے اور فتاویٰ رضویہ کی جلد دوم ص ۲۱۹ پر درج ہے اس کا عکس ملاحظہ کیجئے۔ (۲۰)

حواشی اور حوالے

(۱).... مولانا محمد ظفر الدین قادری بہاری ”حیات اعلیٰ حضرت“ جلد اول صفحہ
(۲).... امام احمد رضا خاں بریلوی نے ۱۳۲۰ھ میں ایک کمیشن کو جواب دیتے
ہوئے اپنے خاندان کی دارالافتاء کی خدمات کے متعلق ان الفاظ میں اظہار
فرمایا:-

”میں آباو اجداد سے علوم دین کا خادم ہوں۔ چوتہتر۔ (۷۴) سال سے میرے
یہاں سے فتاویٰ جاری ہے تمام ہندوستان اور کشمیر اور برما سے مسائل کے
سوالات آتے ہیں۔ ابھی چین سے چودہ (۱۴) مسئلے دریافت کئے ہیں چنانچہ
لفافہ مرسلہ چین داخل کرتا ہوں۔“

(امام احمد رضا ”اظہار الحق الجلی“ ۱۳۲۰ھ ص ۸ مطبوعہ انڈیا)

اس بیان کے مطابق آپ کے خاندان میں دارالافتاء کی بنیاد ۱۲۳۶ھ ہی بنتی
ہے مگر اپنے وصال سے قبل وصایا شریف میں یوں فرماتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اس گھر سے فتوے نکلتے ہوئے ۹۰
برس سے زائد ہو گئے ہیں

(وصایا شریف ۱۳۳۰ھ از مولانا حسنین رضا ص ۱۹ مطبوعہ انڈیا)

اس سے سنہ ہجری ۱۲۵۰ بنتا ہے مگر چونکہ فرمایا زائد اور اس وقت صدی
کامل نہیں ہوئی تھی اس لئے ۹۰ سے زائد فرمادیا۔ (مجید)

(۳).... مولانا حسنین رضا خاں بریلوی ”وصایا شریف“ ص ۱۹ مطبوعہ انڈیا

(۴).... مولانا مفتی محمد رضا خاں بریلوی ابن مولانا مفتی محمد تقی علی خاں
قادری بریلوی کا اصل نام محمد عبدالرحمن تھا مگر عرف میں اپنے جد امجد کا نام
رضا استعمال کیا اور محمد رضا کے نام سے مشہور ہوئے جبکہ گھر میں ننھے میاں
پکارے جاتے تھے۔ ننھے میاں کے نام سے متعدد استفتاء بنام اعلیٰ حضرت
فتاویٰ رضویہ کی مختلف جلدوں میں موجود اور اعلیٰ حضرت کے کئی رسائل اور

فتاویٰ پر آپ کی ہر تصدیق بھی موجود ہے آپ کی ہر تصدیق ملاحظہ کیجئے۔

”محمد رضا خاں قادری“

محمد عبدالرحمن عرف

ایک زبانی روایت کے مطابق جسکے راوی مفتی تقدس علی خاں علیہ الرحمہ (المتوفی ۱۳۰۸ھ / ۱۹۸۸ء) اور حضرت علامہ شمس الحسن شمس بریلوی (ستازہ امتیاز) علیہ الرحمہ (المتوفی ۱۳۱۷ھ / ۱۹۹۷ء) ہیں، ننھے میاں (اعلیٰ حضرت کے سب سے چھوٹے بھائی) افتاء میں علم الفرائض میں سب سے زیادہ ماہر تھے اعلیٰ حضرت کے پاس اگر وقت نہ ہوتا اور علم الفرائض کا کوئی فتویٰ آتا تو اعلیٰ حضرت آپ کی طرف بھیج دیتے۔ اسی قسم کی روایت صاحبزادہ وجاہت رسول قادری اپنے والد ماجد حضرت مولانا وزارت رسول القادری الحامدی علیہ الرحمہ سے بھی بیان کرتے ہیں۔ (مجید)

(۵)۔۔۔ مولانا مفتی حامد رضا خاں قادری بریلوی کے فتاویٰ کتابی شکل میں محفوظ نہیں ہو سکے مگر آپ کی ہر تصدیق اعلیٰ حضرت کے کئی رسائل اور فتاویٰ پر موجود ہے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف کفر کا فتاویٰ اس خاندان سے سب سے پہلے آپ نے دیا تھا آپ کا یہ فتویٰ بنام ”الصارم الربانی علی اسراف القادیانی“ شائع ہوا۔

یہ آپ نے یہ رسالہ ۱۳۱۵ھ / ۱۸۹۶ء میں تالیف فرمایا تھا جبکہ ابھی یہ فتنہ سر اٹھا رہا تھا اس سے قبل کا کسی عالم کا فتویٰ قادیانیوں کے کفر سے متعلق احقر کی نظر سے نہیں گزرا

(۶)۔۔۔ حضرت مولانا سیدی مرشدی محمد مصطفیٰ رضا خاں قادری نوری المعروف بہ مفتی اعظم نے تقریباً ۷۵ برس فتویٰ نویسی فرمائی ہے یعنی ۱۳۲۸ تا ۱۳۰۲ھ / ۱۹۰۹ء تا ۱۹۸۱ء۔ آپ کے فتاویٰ کے صرف ایک مجموعہ شائع ہوا ہے جس میں کل ۲۵ فتوے شامل کئے گئے ہیں جبکہ آپ نے تقریباً پون صدی

فتویٰ نویسی فرمائی ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کے فتویٰ کو جلد از جلد شائع کیا جائے تاکہ مسلمان اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ سے سوال پوچھنے والوں میں ہند کے علاوہ پاکستان کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے حضرات شامل ہیں مثلاً ”فتاویٰ مصطفویہ“ جلد اول (کتاب الایمان) میں ڈیرہ غازی خان سے حافظ محمد حبیب اللہ (صفحہ ۷۶) ’ گجرات سے مولوی عبدالغفور چشتی (ص ۸۰) مری پنجاب سے مولوی عبدالرحمن (ص ۱۳۸) وغیرہ کے استفتاء اس جلد میں شائع کئے گئے ہیں۔ اسی جلد میں مولوی شمس الحسن شمس بریلوی (م ۱۹۹۷) کا ایک استفتاء (۱۳۵۷ھ) ص ۱۱۱ پر شامل ہے۔ (مجید)

(۷) ڈاکٹر مجید اللہ قادری ”امام احمد رضا اور علمائے سندھ“ ص ۱۱ مطبوعہ کراچی

(۸).... مولانا محمد ظفر الدین قادری بہاری ”۱۳ ویں صدی کے مجدد“ ص ۶۵ مطبوعہ کراچی

(۹).... بارکھان صوبہ بلوچستان کی تحصیل اور ضلعی ہیڈ کوارٹر بھی ہے یہ علاقہ ڈیرہ غازی خان سے ۱۵۰ کلو میٹر مغرب میں واقع ہے۔ یہ بستی چاروں طرف سے اونچے اونچے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے جس کی اونچائی ۳ تا ۴ ہزار فٹ بلند ہے۔ یہ تمام پہاڑ خشک ہیں کہیں کہیں تھوڑی ہریالی ہے۔ یہاں قوم کھتران آباد ہے اور زبان کھترانی یا سرائیکی بولی جاتی ہے۔ اردو زبان تقریباً تمام لوگ سمجھتے اور بولتے ہیں بارکھان سے کھلو جاتے ہوئے چوہڑ کوٹ کی بستی (جو اب تقریباً ویران ہے) ۴ کلو میر کے فاصلے پر واقع ہے جہاں قادر بخش کے والد آکر آباد ہوئے تھے اور قادر بخش صاحب کا قیام بھی چوہڑ کوٹ ہی رہا اور یہی ان کا مزار بھی ہے۔

(۱۰).... پروفیسر محمد بخش قمر صاحب گورنمنٹ کالج کوئٹہ میں شعبہ اسلامیات

کے استاد ہیں۔ آپ نے سکھر ڈھرکی کی مشہور و معروف خانقاہ بھرچونڈی شریف کے بانی حضرت حافظ ملت مولانا حافظ محمد صدیق صاحب علیہ الرحمہ (م ۱۳۰۸ھ) کی شخصیت و خدمات کے موضوع پر Ph.D کا مقالہ تیار کر کے سندھ یونیورسٹی جامشورو میں ڈگری کے حصول کے لئے پیش کر دیا ہے۔

(۱۱).... حاجی کریم داد ولد غلام رسول صاحب مرحوم بارکھان کے علاقے ”سومن“ میں ۱۹۳۳ء میں پیدا ہوئے ایم اے اردو اور B.Ed کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں بحیثیت استاد منسلک ہو گئے اور ترقی پاتے ہوئے ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر فائز ہوئے آپ مزید ترقی کرتے ہوئے محکمہ تعلیم بلوچستان کے جوائنٹ ڈائریکٹر مقرر ہوئے اور اسی منصب پر ۱۹۹۳ء میں ریٹائر ہوئے۔ آپ نے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں تدریسی خدمت انجام دی ہے آپ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ سید کمال الدین آغا نقشبندی (المتوفی ۱۹۸۱ء) سے کوئٹہ میں ۱۹۵۰ء میں بیعت ہوئے تھے۔ یہ بزرگ ذاکر شریف قندھار سے تشریف لاتے تھے۔ حاجی کریم داد صاحب ریٹائر منٹ کے بعد بارکھان میں مستقل آباد ہیں۔ باشرع، منسار خوش مزاج انسان ہیں۔ بزرگوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ راقم کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آئے اور اپنے دولت کدہ پر احقر کو کھانے پر بھی مدعو کیا اور کئی مسائل پر حاجی صاحب نے گفتگو فرمائی۔ احقر کو دوبارہ بارکھان کی دعوت بھی دی۔ (مجید)

(۱۲).... مولوی عامل اللہ یار ابن قاضی مولوی احمد یار ان دنوں ضلع تحصیل بارکھان میں اپنے خاندان کے ساتھ آباد ہیں۔ مولوی اللہ یار زید مجدد نوجوان ہیں اور خاندانی معاملات آپ ہی کے ذمہ ہے۔ دینی تعلیم اپنے والد مولوی احمد یار سے حاصل کی پیشہ کے لحاظ سے ٹیلر ماسٹر ہے جب کہ آپ کے بھائی اسکول ٹیچر ہیں۔ آپ نے اپنے بزرگوں کے کتابوں کو بہت سنبھال کر رکھا ہے۔ خود فارسی اور اردو پڑھ لیتے ہیں مسلک میں بہت زیادہ سخت ہیں

اور بد مذہب لوگوں سے برابر مناظرے کرتے رہتے ہیں آپ کے دم سے بارکھان میں ۹۰ فیصد سنیت قائم ہے اور تمام مساجد میں اہلسنت و جماعت کے علماء خطیب و امام ہیں۔ آپ خود بھی بارکھان کی ایک جامع مسجد میں جمعہ کی خطابت و امامت فرماتے ہیں۔

(۱۳).... حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی ابن حضرت خواجہ گل تونسوی ابن بانٹی خانقاہ تونسہ شریف حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی (المتوفی ۷ صفر المظفر ۱۲۶۷ھ ۱۳ دسمبر ۱۸۵۰ء) ۱۲۲۱ھ ۱۸۲۶ء تونسہ شریف میں پیدا ہوئے تمام تربیت اپنے جد امجد سے حاصل کی والد صاحب کا جلد ہی انتقال ہو گیا اس لئے آپ کو جد امجد کی تمام توجہ حاصل رہی یہاں تک کہ جد امجد کے وصال کے بعد آپ ہی تونسہ شریف کے سجادہ نشین قرار پائے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ العزیز نے آپ کے متعلق فرمایا!

”خواجہ اللہ بخش صاحب کی نظر میں اہل دنیا کی ذرہ برابر وقعت نہ تھی آپ بے حد غریب نواز تھے دنیا داروں کو بہت حقیر جانتے تھے۔ خواجہ اللہ بخش جیسا کوئی فقیر دیکھنے میں نہیں آیا“

خواجہ اللہ بخش کے تین صاحبزادے تھے ایک کا وصال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا جن کا نام حافظ احمد تونسوی تھا۔ خواجہ اللہ بخش کے وصال کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حافظ محمد موسیٰ (م ۱۳۲۳ھ ۱۹۰۶ء) سجادہ نشین ہوئے ان کے بعد حافظ محمد موسیٰ کے صاحبزادے محمد حامد تونسوی (م۔ ۱۹۳۳ھ ۱۹۶۰ء) سجادہ بنے پھر آپ کے بیٹے حافظ سرید الدین (م۔ ۱۳۷۹ھ ۱۹۶۰ء) زیب سجادہ رہے اور آپ چونکہ لا ولد تھے اس لئے ان کے بعد ان کے حقیقی بھائی خواجہ خان محمد (م ۱۹۷۹ء) نے سلسلے کو آگے بڑھایا اور آج کل تونسہ شریف میں خواجہ عطا اللہ صاحب مسند سلیمانہ پر سجادہ نشین ہیں۔

خواجہ اللہ بخش کا وصال ۲۹ جماد الاول ۱۳۱۹ھ ۳۱ ستمبر ۱۹۰۱ء) کو ہوا ان کے

ہزاروں مریدوں میں ایک معروف نام مولوی عبدالحق خیر آبادی کا بھی ہے۔
 مولوی عبدالحق کے والد ماجد مولوی فضل حق خیر آبادی نے بھی خواجہ اللہ
 بخش سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کا درس پڑھا تھا۔
 (پروفیسر خلیق احمد نظامی، تاریخ مشائخ حیثیت صفحہ ۲۳۵-۲۳۴، مطبوعہ
 اسلام آباد)

(۱۴).... پروفیسر خلیق احمد نظامی ”تاریخ مشائخ چشت“ ص ۲۴۰ مطبوعہ اسلام
 آباد

(۱۵).... مولوی میر خاں ناہر کوٹ بستی کہ معروف عالم دین تھے۔ یہ بستی چوہڑ
 کوٹ سے ۳۰ میل کے فاصلے پر واقع ہے آپ اکثر چوہڑ کوٹ آتے جاتے
 تھے اور قیام بھی فرماتے۔ آپ کا وصال ۱۹۲۳ھ / ۱۹۲۴ء میں ہوا اور آبائی
 گاؤں ناہر کوٹ میں مدفون ہوئے۔

(بروایت حاجی کریم داد ساکن بارکھان بلوچستان)
 (۱۶).... مولانا مفتی حکیم محمد امجد علی ابن مولانا حکیم جمال الدین ابن
 مولانا خدا بخش (المتوفی ۱۳۶۷ھ / ۱۹۴۸ء) نے دورہ حدیث مدرسہ الحدیث
 پبلی بھیت میں: محدث وقت حضرت وصی احمد محدث سورتی (م ۱۹۱۶ء) میں
 کھل کیا۔ آپ نے اعلیٰ حضرت سے بیعت و خلافت حاصل فرمائی اور آپ
 کے مدرسہ منظر اسلام سے منسلک ہو گئے ۱۹۱۱ء تا ۱۹۲۵ء تک اس مدرسہ اور
 دارالافتاء سے منسلک رہے۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کی صلاحیتوں کی بنا پر صدر
 الشریعتہ کا خطاب بھی عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد آپ
 ۳-۵ سال تک اس مرکزی دارالافتاء میں مفتی اعظم کی حیثیت سے فتویٰ
 نویسی کی خدمت انجام دیتے رہے اس کے بعد ہند کے مختلف مدارس میں
 مفتی اور صدر المدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ اعلیٰ
 حضرت کے وصال کے بعد آپ کے پاس بھی ہند اور موجود پاکستان کے

دور دراز علاقوں سے استفتاء آتے رہے۔ چند مستفتیوں کے نام ملاحظہ ہوں ان میں اپنے وقت کے مستند علماء و مفتیان کرام شامل ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد آپ کی شخصیت مرجع علماء بن گئی تھی۔ اس لئے علماء اور مفتیان آپ پر اعتماد فرماتے تھے :-

۱.... مولانا سراج احمد بہاولپوری (م ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ء) فتاویٰ امجدیہ جلد دوم ص ۱۳۸ (جلد سوم ص - ۳۷۴)

۲.... مولانا ظہور الحسن درس کراچی - (م ۱۳۹۲ھ / ۱۹۸۲ء) فتاویٰ امجدیہ جلد دوم ص ۱۳۷ (جلد سوم ص ۱۳۹ / ۱۴۲)

۳.... مولوی عبدالرحیم بھرچونڈی شریف فتاویٰ امجدیہ جلد دوم ص ۱۹۹

۴.... مولوی قاضی قادر بخش بنگلانی بارکھان جلد سوم ص ۲۷۰ / ۳۲۵

۵.... خواجہ غلام سدید الدین تونسوی (ڈی جی خاں) جلد ۳ ص ۲۹۹

۶.... سید اکبر شاہ قصابان مسجد سولجری بازار کراچی جلد سوم ص ۳۵۳

۷.... صوفی احمد الدین لاہور جلد سوم ص ۲۶۳

۸.... خلیفہ عزیز الدین لاہور جلد سوم ص ۱۵۵

(۱۷) مولانا حکیم امجد علی اعظمی "فتاویٰ امجدیہ" جلد سوم مطبوعہ انڈیا

(۱۸) امام احمد رضا خاں بریلوی "فتاویٰ رضویہ" جلد نمبر نہم صفحہ ۱۸ مطبوعہ

کراچی

(۱۹) محمد اکبر اعوان "شاہ احمد رضا خاں بڑیچ افغانی" ص ۳۵ مطبوعہ کراچی

(۲۰) امام احمد رضا خاں بریلوی "فتاویٰ رضویہ" جلد دوم ص ۳۱۹ مطبوعہ

کراچی

مسئلہ ۲۳۵ :- از چوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان مرسلہ قادری بخش صاحب ۱۴ ربیع الاول شریف ۱۳۳۵ھ

چہ میفرمایند علمائے دین دریں مسئلہ کہ شخصے را عادت است کہ چون ذکر اومی پیشد بر سر آں بول بر آید و می ایستد رواں مئی گردد اگر نمی پیشد بر سر آں بول نمودار نشود آیا دریں صورت وضو اش شکستہ شود یا نہ اگر دریں حالت وضو بشکند آیا صاحب عذر شود یا نہ یا حکم است کہ او نہ پیشد و نہ وسواس کند ہر گاہ کہ بول آید وضو بکند ہر چہ بگنجد بفرمایند اگر ایں عادت بود و او وضو نمی کرد نماز با خواندہ است آیا جملہ نماز بازرگرا نند یا معاف است باعث حرج بسیار ازین سوال بیادنی معاف فرمایند۔

الجواب :- کثیرتاً آنکہ برب عضو بر نیاید وضو بجائے خود است نماز ہا کہ ایں پنہاں گزارده است بے خلل است فشردن عضو پس از بول سنت پیش نیست اگر میداند کہ ہر بار کہ می فشرد چیزے بر می آید و منقطع نمی شود و اگر فشرد بر نیاید آنگاہ اورا فشردن بکارت نیست۔ پنہاں وضو کردہ نماز گزارد و دوسومہ را ببدل راہ نہ دہد۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

عکس فتاویٰ رضویہ جلد دوم صفحہ ۱۵۵

مسئلہ - از چوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان ۱۲ محرم ۱۳۳۵ھ
مجموعہ فتاویٰ بدایعی ۵۵ و مجموعہ فتاویٰ ہایونی تصنیف مولانا مفتی عبدالغفور صاحب نے چارپائی والے مسئلہ مسجد میں جواز کھاسے وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتکاف کے موقع میں سر پر سوٹے تھے۔

الجواب
حدیث قوی اور نقلی جب متعارض ہوں تو عمل حدیث قوی پر ہے ان المسجد لعتبن لهذا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذ نزلت پر
ہر از مسجد الحرام شریف میں داخل ہوئے اور وہیں کعبہ معظمہ کا طواف فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے خون ان کے زخموں سے جاری تھا ان کے لیے مسجد اقدس میں خیمہ نصب فرمایا کہ قریب سے عیادت فرمائیں کہ سوا مسجد شریف کے کوئی مکان نشست کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نہ تھا کیا ان احادیث سے استناد کر کے کوئی ایسی حرات کر سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

عکس فتاویٰ رضویہ جلد سوم صفحہ ۶۰۱

مسئلہ - از چوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان مرسلہ قادری بخش صاحب ۱۴ ربیع الاول شریف ۱۳۳۵ھ
چہ می فرماید علمائے دین دریں مسئلہ کہ وہ سجدہ سو سلام بہر دو جانب گوید یا سیکے جانب اگر امام باشد یا مفرد بگدام روایت فتویٰ ہا سے۔

الجواب
سلام ہمیں جانب راستہ دہد امام باشد خواہ مفرد یا سیکے گنتہ اندک اگر سلام دیگر وہ سجدہ سو سلام تھا خود و نہ کار کرد۔ واللہ تعالیٰ اعلم

عکس فتاویٰ رضویہ جلد سوم صفحہ ۶۴۴

مسئلہ ۹۸: از جوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان، مسئلہ قادر بخش صاحب، ۱۳ ربیع الاول شریف ۱۳۳۶ھ
کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مسافروں راعادت است کہ در سفر بیزندہ ہانا دین یکندہ ولیکن امان یکندہ بعد از
دست مقررہ از پنجاب بیرون نمانیدہ از مشرق بہ مغرب و از شمال بجنوب و علی العکس می برند آیا این فعل جائز است یا ناجائز۔

الجواب

این حرام است۔ بعد از دفن کشودن حلال نیت۔ و نقل بسنت بیدہ نیز روایت۔ واللہ تعالیٰ اعلم

عکس فتاویٰ رضویہ جلد چہارم صفحہ ۱۱۶

مسئلہ از جوہر کوٹ، بارکھان ملک بلوچستان، مسئلہ قادر بخش صاحب، ۱۳ ربیع الاول شریف ۱۳۳۶ھ
چہ می فرمایند علمائے دین دریں مسائل کہ (۱) اگر زن نے بیوہ شود دویم بار نکاح کردن لازم است یا میخواید کہ
سن نکاح نمی کنم کہ می گوید کہ بنشینم رواست یا نہ خواہ جوان باشد یا در میان سالہ باشد یا پیرزن بود ہر چہ حکم
شریح باشد تخمہ فرمایند (۲) چون پدر و زندگی خود و دختر را بکودکے در عہد نکاح آورد کہ صغیرست در خانہ خود
دختر ششہ ست بعضی ايجاب و قبول کردہ پدرش بمرد دختر او دوسہ سال منقضی گردید کہ بالغہ است و
کودک تا حال نورد آیا شرعاً اکنون بر بادوران گناہ است یا نہ یا عوالہ آل خورد بکنندہ این چنین کار برائے پدر مرحوم
چگونہ باشد و چہ گناہ۔

الجواب

(۱) پیرزن را خود جبر بر نکاح نتواند و جوان نیز اگر بنفس خود اطمینان دارد و اتباع رسم باطل ہنود نمی کند از قید نکاح
دیگر آزادماندنش ہی رسد کما دل علیہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ویناہ فی اطابب التھانی آری اگر بر خود
اطمینان ندارد نکاح واجب است واللہ تعالیٰ اعلم (۲) قاصرہ را نکاحیکہ پدر کرد نسخ نتوان نمود گو با غیر کنو وغبین
فاحش ویرہ باش صبی اگر مزاجش شدہ زنش مایخواہ با و سپردن لازم است واللہ تعالیٰ اعلم۔

عکس فتاویٰ رضویہ جلد پنجم حصہ اول صفحہ ۷۰

مسئلہ ۱۰۱: از جوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان، مسئلہ قادر بخش صاحب، ۱۳ ربیع الاول شریف ۱۳۳۶ھ
کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر کسی نذر کرد کہ فلاں حاجت من بر آید بارواح فلاں
مشائخ برائے اللہ فلاں زرگاؤ یا گو نقد خواہم کشت یا بدیم چوں حاجت او بر آید انکوں گوید کہ آں زرگاؤ کہ نذر کردیم
برگیر گو سفنداں بدل کردہ خیرات کنم آیا مذکورہ زرگاؤ و بعض دیگر گو سفند بدل کردن جائز است یا خود آں زرگاؤ
را خیرات بکند۔

الجواب:۔ نذر کہ بر جائز معین واقع شد تبدیلش رویت قال تعالیٰ و لیبوفوا نذروہم واللہ تعالیٰ اعلم

عکس فتاویٰ رضویہ جلد پنجم حصہ پنجم صفحہ ۳۶۶

مسئلہ :- از چوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان مرسلہ قادری بخش صاحب ۱۲ ربیع الاول شریف ۱۳۳۵ھ
چہ فرمایند علمائے دین دریں مسئلہ کہ نزع از او سے چوہر کوٹ روپیہ است اکنون شیعہ بیعت و تائید ۱۰ یا زیادہ کم از نزع بازار دہشتہ فی روپیہ زودت
یکن ایجاز است یا کردہ۔

الجواب :- باز است و اللہ تعالیٰ اعلم۔
عکس فتاویٰ رضویہ جلد ہفتم صفحہ ۹۹

مسئلہ :- از چوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان مرسلہ قادری بخش صاحب ۱۲ ربیع الاول شریف ۱۳۳۵ھ
چہ فرمایند علمائے دین دریں مسائل :-

(۱) حکم ذبح فوق العقده نوشتہ شدہ بمن رسید، لیکن جناب اعلیٰ حضرت فیصلہ پانہ کردہ، ہمیں اختلاف دریں
ملک بسیار است، کسے می گوید کہ ہر چار رگ بریدہ شود، کسے می گوید کہ نہ، براہ کرم مولانا صاحب بکدام روایت قائل
است، ہر چہ رائے مولوی صاحب، و اتفاق فتویٰ است، تحریر فرمایند، تاکہ براں عمل درآمد کردہ باشد۔

(۲) بر سیم قربانی واجب است یا نہ،

الجواب :- (۱) اجماع ائمہ ماست کہ اگر سہ رگ بریدہ شود ذبیحہ طلال است، و این معنی بشایدہ یا جمع باہل خبرت
توان دریافت، ہمیں در فتویٰ سابقہ نوشتہ شدہ و ہمیں است فیصلہ علامہ شامی در دالمختار، و آنچه یکبار برائے امتحان
مشہود فقیر شد آنست کہ بذبح فوق العقده نیز رگہا بریدہ می شود، و اللہ تعالیٰ اعلم،

عکس فتاویٰ رضویہ جلد ہشتم صفحہ ۳۱۹

مسئلہ :- از چوہر کوٹ بارکھان ملک بلوچستان مرسلہ قادری بخش صاحب ۱۲ ربیع الاول شریف ۱۳۳۵ھ
یکے لا میگوید کہ درد عاگنج العرش و درد عاگکشرہ وغیرہ ادبیات عربی فارسی و در نور نامہ ہندی کہ در آن
ذکر تولد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالتفصیل است ثواب چنداں نوشتہ است کہ جہل شہید و حج ذبیحہ
امورات ثواب حاصل آید ہر کہ بخواند آن لا میگوید ہر چہ ثواب نوشتہ است آن حاصل نباشد و غلط
نوشتہ برائے فروختگی کتاب نوشتہ و بیع اصل نیست آیا گفتہ لا بوجہ شرع شریف است یا مخالف
اگر ثواب ہچنان است کہ نوشتہ است براہ ہر بانی سند و حوالہ کتاب کہ در ذکر تولد آنحضرت صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم چنداں ثواب است تحریر فرمایند بلا حیثیت۔

الجواب :- رسالہ منظومہ ہندیہ کہ بنام نور نامہ مشہور است ردائیتش بے اصل است خواندنش ردا
نیست چہ جائے ثواب و برادہ عید در مطابیح انجیر ردائیتہائے اسنادی نویسند اکثر بے اصل است و ثواب بدست
رب لا رباب یکبار سبحن اللہ میزان را پر میکند و لا الہ الا اللہ پسترا از عرش نبی البتہ یک کلمہ از دنیا اگر مقبول
شود جزائے او جز جنت نیست و ثواب اللہ طیب و اکثر۔ و اللہ تعالیٰ اعلم۔

عکس فتاویٰ رضویہ جلد نہم صفحہ ۱۵۵

مسئلہ۔ از بوجہ جتان مرسدہ قادر بخش
 اندرین حکایت علمائے کرام چه میفرمایند که قولے معتبر نقل است آباد اعظ در و غلط ذکر کند با حقیقت
 است در کدام کتاب این نقل است آن حکایت این است۔
 یک حکایت یاد دارم از رسول + باد مقبول همه اهل قبول + تا که معلوم تو گردو همیش + تا چه حد است امتان
 را شفقش + بعد از آن ایم بعد چار یار + لے برادر یک زمان گوش دار + جمله شہا مصطفیٰ بیدار بود + اتفاقاً یک شبے
 خوابش بود + بود اندر خواب وقتی نماز + ناگہاں آمد خطابش بے نیاز + آفریدم من ترا از بہر آن + تا شدی پشت چہا امتان
 اسے محمد خواب تو زیندہ نیست + ہر کہ در خدمت نباشد بند نیست + چون پر بازی بخواب نیم شب + کردم اکنون متانت را غضب
 دوزخ اندازم ہر از عام و خاص + یک تنے زیشان نگردانم خلاص + چون شنید این آیہ خیر البشر + انت زانجا امتی گو یا بدر
 رفت زانجا از دیدہ هیچ کس + و انداز عالم الاسرار بس + چون گذشت از دور و دوری تھہ + خون دل خوردند یاران
 غصہ را + عاقبت روز سوئم بعد از نماز + جمله پیش عائشہ رفتند باز + چون پرسیدند زام مومنین + داد ایشان را
 جواب میں چنین + گفت او شین شب رسید از حق خطاب + امتان را آیہ از بہر فذاب + چون کہ این آیہ بگوش اور رسید +
 شد بدون از حجرہ اور اکس ندید + آنچه ناں بر خاست از یاران عزیز + لرزہ افتادند اندر جن و دیو + ناگہاں
 دیدند یک جوان ز دور + یافت زان جوان دل ایشان سرور + پیش او رفتند و پرسیدند از او + گر خبر داری
 زمینگیر بگو + گفت من کے مصطفیٰ را دیدہ ام + بلکہ اور از کسے شنیدہ ام + یک سہ روز است پیغام خودش
 از میان کوہ میآید بگوش + جانور از نالہ او دل خستہ اند + از چراگاہ دہاں رابستہ اند + ہر زمان از دیدہ
 می رانند آب + بستہ اند از راہ دیدہ راہ خواب + چون شنیدند این خبر را آل گمردہ + جملہ اور دندرد سے
 سوئے کوہ + شد نماں در میان کوہ غار + دید و آل غار آل صدر کبار + سر بسجده بردہ پیش بے نیاز
 با خدا خوشتن میگفت راز + گریہ میکرد دہمی گفت اسے الہ + تا نہ بخشی امتانم را گناہ + مانہ بردارم سر خود از
 زمیں + تا بروز حشر نام این چنین + اینچنین میگفت دینا لید زار + اشک میبارید چون ابر بہار + چون
 شنیدند این خفاش را زور + جملہ را از نالہ اش خون شد جگر + گفت صدیق شفیع المومنین + از گرم
 بردار سر را از زمین + آنچه من در عمر طاعت کردہ ام + آنچه در دنیا عبادتہ کردہ ام + آل نواب از
 برائے امتان + دارم اسے پیغمبر آخر زمان + الی آخر الحکایت۔ یہ حکایت رسالہ میلاد غلام شہید

میں ہے۔
الجواب۔ این نقل باطل ہے اصل ست در بیچ کتاب معتبر از و نشانے نیست
 واللہ تعالیٰ اعلم۔

عکس فتاویٰ رضویہ جلد نہم صفحہ ۶۶

مسئلہ۔ از فورٹ سنڈمین بلوچستان رسالہ زدوب طیشہ مرسلہ مستری احمد الدین ۳، جادی لاہور
 (۱) مولود شریف کرنا کیسا ہے اور بوقت بیان ولادت شریف قیام کرنا کیسا ہے (۲) گیارہویں حضرت
 پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی کرنی کیسی ہے (۳) کھانا آگے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر ختم دینا جائز ہے یا ناجائز (۴)
 اونٹنی بیٹھتے یا رسول اللہ کہنا آپ کو حاضر ناظر جاننا اور عالم الغیب ماننا کیسا ہے (۵) بزرگوں کی قبروں
 کی زیارت کیلئے دور دراز سے سفر کرنا عرس اور قبروں کا طواف اور بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں (۶) ہر
 دو طریق پر میت کا اسقاط کرنا جائز ہے یا نہیں (۷) جمعہ کی نماز کے بعد احتیاط الظہر ۱۲ رکعت پڑھنا
 ضروری ہے یا نہیں؟

الجواب بعد مراسم سنت۔ وہ سوال جواب جوابات میں بہت چالاکی برتی گئی ہے پھر بھی اون سے توہب
 کی جھلک پیدا ہے آپ نے محیب کا دیوبند میں تعلیم پانا لکھا ہے وہاں یہ سوالات کرنے نہ تھے کہ ان میں غلط
 جواب دے جب بھی کافر نہ ہو گا دیوبندیوں کے عقائد تو وہ ہیں جنکی نسبت علمائے حرمین شریفین نے
 بالاتفاق تحریر فرمایا ہے کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر۔ جو ان کے اقوال پر مطلع ہو کر ان
 کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے ایسی جگہ تو یہ سوال کرنا چاہئے کہ رشید احمد گنگوہی داشرن علی تھا تو ی د
 قاسم نانوتوی اور محمود حسن دیوبندی و خلیل احمد امشبھی اور ان سب سے گھٹکر ان کے امام اسمعیل دہلوی اور ان
 کی کتابوں براہین قاطعہ و تحذیر الناس و حفظ الایمان و تقویۃ الایمان و ایضاً الحق کو کیسا جانتے ہو اور اون لوگوں
 کی نسبت علمائے حرمین شریفین نے جو فتوے دیئے ہیں انہیں باطل سمجھتے ہو یا حق مانتے ہو اور اگر وہ اون فتووں
 سے اپنی ناواقفگی ظاہر کرے تو برہمی مطیع اہلسنت سے حسام الحرمین منگالیجئے اور دکھائیے اگر بکشاہد پیشانی تسلیم
 کرے کہ بیشک علمائے حرمین شریفین کے یہ فتوے حق ہیں تو ثابت ہو گا کہ دیوبندیت کا اوپر کچھ اثر نہیں درسنہ
 علمائے حرمین شریفین کا وہی فتویٰ ہے کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر۔ اس وقت آپ کو ظاہر ہو جائیگا کہ شخص
 اللہ رسول کو گالیاں دینے والوں کو کافر نہ جاننا درکنار علمائے دین و اکابر مسلمین جانے وہ کیونکر مسلمان پھر
 مسئلہ عرس و فاتحہ فرعی مسائل کا اوس کے سامنے ذکر کیا ہے فقط۔

عکس فتاویٰ رضویہ جلد نہم صفحہ ۱۸

مسئلہ (۳۷۴) محمد عبدالرشید از خضار مدرسہ انجمن محاسن اسلام احاطہ عبدالغفور صاحب

۱۴ محرم ۱۳۳۶ھ

مسجد میں بلا اذان نماز جماعت درست ہے یا نہیں اور تنگ وقت کی وجہ سے صرف تکبیر جماعت
 سے ہے یا نہیں؟ بتیروا تو جروا۔

الجواب

بلا اذان جماعت اولے مکروہ و خلاف سنت ہے، ہاں وقت ایسا تنگ ہو گیا ہو کہ اذان کی گنجائش
 نہ ہو تو مجبورانہ خود ہی چھوٹی جائے گی، واللہ تعالیٰ اعلم۔

عکس فتاویٰ رضویہ جلد دوم صفحہ ۴۱۹

مسئلہ: - مرسلہ مولوی قادر بخش صاحب از چوہڑوٹ تحصیل بارکھان ملک بلوچستان غرہ جمادی الاول ۱۳۰۰

چہ می فرمایند علماء کرام علیہم الرضوان اندرین مسئلہ کہ آیا ملازمت و نوکری قوم نصائی کردن جائز است یا نہ خصوصاً شخصے حاجی و مولوی و متقی بمشاہرہ خمس و عشرین بعہدہ معلمی در نوکری مصروف است بعضے عالماں بعدم جواز این مشاہرہ قائل ؟

الجواب: - بعض ملازمت ناجائز است مثلاً ملازمت حکم کردن خلاف ما انزل اللہ

و ملازمت رخصتری کہ کاغذ سود بنویسد بر و گواہ می باشند - وغیرہما - و اگر در کار پائے متعلقہ مخدورے نبود جائز ہست - همچنین تعلیم کہ اگر بتعلیم امر مباح مامورست مثلاً حساب آئینہ و غیرہ اجارہ جائز ہست و اگر بتعلیم عقائد باطلہ و امور منہیہ اشتغال دارد ناروا - واللہ تعالی اعلم

عکس فتاویٰ امجدیہ جلد سوم صفحہ ۲۷۰

مسئلہ: - مرسلہ مولوی قادر بخش صاحب از چوہڑوٹ تحصیل بارکھان ملک بلوچستان غرہ جمادی الاول ۱۳۰۰

اگر کسی سرقہ کرو بعدہ نادام شدہ کنوں اگر سارق بالفظ سرتح گوید کہ فلاں چیز من ذریدہ ام شرمبار و گرفتار شوم - و خواہد کہ قیمت مسروقہ بمالک می دہم و اصل چیز از دست برفت - ولیکن چون قیمت بمالک می دہم و ایفاء کند ظاہری گوید کہ این قیمت در مقابلہ فلاں چیز ہست کہ شرمسار شوم - و دریکسو جا قیمتش ادا نمی خواہد کرد - اگر باین طریقہ قیمت مال مسروقہ ادا کند - آیا گردش بروز قیامت رہا گردد - یا نہ یا لازم است کہ ظاہر گرفتہ ادا کند تا از گناہ پاک شود - ہرچہ حکم شرع شریف باشد تخریر فرمایند ؟

الجواب: - چون اصل شیئی فوت شدہ قیمتش ادا کند - و این لازم نیست کہ ظاہر کند و گوید کہ این قیمت آن چیز است کہ در دیدہ بودم - واللہ تعالی اعلم

لے محض از ادائیگی مال مسروقہ بمالک، سارق از گناہ سرقہ پاک نمی شود - زیرا کہ سرقہ گناہ کبیرہ است کہ بے توبہ صحیح از دے بری نمی شود - پس بر سارق لازم است کہ از فعل سرقہ توبہ کند - واللہ تعالی اعلم - مصباحی

عکس فتاویٰ امجدیہ جلد سوم صفحہ ۳۴۵

مسئلہ (۳۴۵) مسائل از شہر کھنہ محلہ کانکر ٹولہ مسئلہ نکتہ خان
 ۱۵ محرم ۱۳۳۹ھ (۱) اذان سنت ہے یا واجب؟

مسئلہ :- مرسلہ مولوی قادر بخش صاحب از چوہدر کوٹ تحصیل بارکھان ملک بلوچستان
 غزہ جمادی الاولیٰ ۱۳۴۰ھ

- (۱) انگریزی خواندن و تعلیم کردن جائز یا نہ بعضے علماء فتویٰ بکفر می دہند؟
- (۲) بعضے آدمی چون کلمہ طیبہ خوانند اول بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتہ کلمہ گویند یک دو ملایاں گفتہ کہ این چنین گفتن نشاید۔ بعضے گویند بیچ پرواہ نہ۔ ہر چہ حکم باشد تحریر فرمائید؟
- (۳) بعضے چون کلمہ طیبہ خوانند بایں لفظ زائد میگویند کہ لا الہ الا اللہ پاک محمد رسول اللہ آیا بایں لفظ زائد پاک در اعراب و معنی نقصان شود یا بیچ حرج نیست؟

الجواب (۱) :- از نفس تعلم و تعلیم زبان انگریزی باکے نیست۔ اما بسا اوقات بسبب امر
 آخر قباحت رونماید مثلاً صحبت کفار و فجار و تعلم امور خلاف شرع کہ از یں اسباب عقائد فاسدہ

در دل جاگیرد۔ و بعض وقت از اسلام بر طرف شود، فاما اگر ایں چنین نباشد مضائقہ ندارد
 واللہ تعالیٰ اعلم

- (۲) قبل کلمہ طیبہ تسمیہ خواندن چرانشاید، بیچ سبب نیست کہ منع گردد۔ واللہ تعالیٰ اعلم
- (۳) در میان در جملہ عربی لفظ پاک کہ فارسی است داخل کردن من حیث الترتیب
 نشاید و من حیث المعنی خلا ندارد۔ واللہ تعالیٰ اعلم

عکس فتاویٰ امجدیہ، جلد چہارم، صفحہ ۱۰-۱۱

قادر بخش خاں

مولوی

بکھ ان ہر

بہت برادر صاحب ^{عزیز مولوی صاحب} عزیز مولوی صاحب
کہ در نیازی سولہ ہر در سے خیریت ہے اور ابلی خرو عافیت
ہر وقت نیک الہ پاک سے چاہتا ہوں احوال آئندہ در بخاں کو

بہت خوشی کی رات کو روز آرف ہوں برادر صاحب آج تنہا
جہاز کا پر ط ہے ہماری تماری پر بر آئی ہے جو خوشی ہے
کو بونت دیر جناب قبلہ وہاں ساری آسمان ہماری
بر آئی جناب واللہ صاحب رخصت ہم سے ہاؤس سجا جہان بہر
جلد گیا ہے مگر حکم ربی الہ پاک جناب واللہ صاحب کو جنت فردسی

عطا فرما دین امن ثم امن قالوا ان الله وانا ابی ربیعون
برادر صاحب آج ^(دعائیں) موعیت ہاؤس الہ پاک تہی برادر کو
خوشی فرم فرما دین امن ثم امن ^{دیرتے وقت} آخری وقت جان قدن کما و صبت
ہر کیا واللہ صاحب کی پارسی اور تہی برادر کما بد فریاد الہ پاک کو

عکس مکتوب بہ نام مولانا قادر بخش منجانب برادر اکبر مولوی اللہ بخش 3 صفحات

اور قرض کی بابت محکوم حال د

آپ فرمایا اور ہر آدمی (میں نے) آپ

پر آدمی سے اس کے لیے دعا کی ہے

میں نے دعا کی ہے کہ آپ کو خوشی اور

خوشیوں سے نوازا جائے اور

بیماریوں سے محفوظ رہے

جب وہیں بارش لگے اور

میں نے دعا کی ہے کہ آپ کو

خوشیوں سے نوازا جائے اور

بیماریوں سے محفوظ رہے

میں نے دعا کی ہے کہ آپ کو

خوشیوں سے نوازا جائے اور

بیماریوں سے محفوظ رہے

میں نے دعا کی ہے کہ آپ کو

خوشیوں سے نوازا جائے اور

تیمانه کوه اصفلی

۷۸۷

السؤال

چه میفرمایند علماء دین درین خصوص که زنی یکدختر خرد را شیرداد و آن مریضه بود

دو سه درود آموخت شوهر در وضعه میخواست که با یک پسر خود آن دختر را که شیر داده

است یا پسرین که قبل ازین نیز خورده متولد شده بود در حدیث

است یا نه = الحور وهو الملعون بالهریب جزا که الله جزا کرد

در صورت مرقوم اگر اشامیدن شیر بیچاره شیر شیر بیچاره حجت شرعی است

تکلیف مابین مذکور نیز جائز نیست زیرا پسر مذکور برادر دختر مذکور است

عبارة زحل ظاهر است الموضحة لولدت من هذا الرجل او غيره قبل ان يرضع

اذا كونه فاكل اخوة الرضخ در حوائط و بلکه اولاد اخوت در وقت

در وقت که بود بینه صبار که پسر بیچاره رضاعی بود متعلق به رضاع و نسبی

وی نیست پدر رضاعی رضاع بود اولاد ایشان برادر و همیشه رضاعی رضاعی

رضاعی وی بود و مادر مریضه رضاعی او باشد همیشه پدر رضاعی رضاعی

رضاعی جده وی بود و برادرش هم رضاعی او یعنی با نفی دیگر فرزندان

فی اللغایه شرح اللمهیه و لکن النحل یتعلق به التیمیم و هو ان ترضع المکره

و اما حقه و جنبه اخا و بنیه اخا و اخوه می و اخوت عمه حتی و کما

بمولد تا منته نارضعت کلوا حده منها صغر صارا خون لایب در شان

لا یکل انکاح بینهما در شکانت انشتین لایکل ایح بینهما لا بینهما

در شکانت لرجل امروه فولدت منه نارضعت صبرین صارا خون لایب

عکس فتویٰ مولانا قادر بخش بزبان فارسی 2 صفحات

سعی نہ کرے کہ کسی کو ہتھیار دے۔
اللہ اعلم

اس وقت - ملک بھر - احمدیوں کی ہتھیاروں کا
اور اس میں ہتھیاروں کی آہستہ آہستہ ہتھیاروں کی
کو آہستہ آہستہ اور درگاہوں کی اور ہتھیاروں کی
کو آہستہ آہستہ ہتھیاروں کی اور ہتھیاروں کی
کو آہستہ آہستہ ہتھیاروں کی اور ہتھیاروں کی
کو آہستہ آہستہ ہتھیاروں کی اور ہتھیاروں کی
کو آہستہ آہستہ ہتھیاروں کی اور ہتھیاروں کی
کو آہستہ آہستہ ہتھیاروں کی اور ہتھیاروں کی
کو آہستہ آہستہ ہتھیاروں کی اور ہتھیاروں کی
کو آہستہ آہستہ ہتھیاروں کی اور ہتھیاروں کی

مولانا قادر بخش کے نام خط کا عکس

تا اینکه در تنبیک انگیزیری مبالغه بیخود از هر حصول منفعت می دارند
 یک و در شاکت و خیرات و بیخیرات و صدقات و نیای مستحق و اداء
 آن می کنند و راست یانه و مانعین را جواب شایسته چنانچه
 گرفتن جائز است چه از شتر الطحمت و باو عصبیت بالست و مال
 نمی گیرند بعد از استیجاب آن و آن در مانعین نیز مقصود است مثل
 باب الرواق قال فی الشتر نبلایة من شرائط الرواق عصبه البدین
 بالاتفاف نعصمة اجابا وعدم لقومه فلا یمنع انتهی و ایضا قال فی الجمل
 الکافر قوله لا یمنع حربی مستامن فینا بسته قید بالمستامن لانه
 امان کان هو و یامعه فیدا انتهی و قد نسبه الی الفتح لیس بحول
 حلال شدند در امور خیرات صرف آنها جائز است **نشان**
 فی هذا الباب و الله اعلم بالصواب

و از تنبیک لیساری و بعضی بجز بر مولوی است و حسین نام پوری
 نیز مانند علماء عظام در بیخیرت که دیو اگر فتن از بیداری متعصب بود
 نام است چه حکم دارد بنیوا لو جروا عن ذلک انما ینزل علیها
 ظاهر است که جائز است و علم حوزان موقوف است مستحب است
 است و لیکن از او متحقق نمیگردد مگر جائز است هر دو در حد
 علی الصلوة و السلام لا بد من البس و الحریة فی حوزة الحرمین

در حدیثی که نقل فرمایند که قلت غریب لیس جوابی است که علمای اصول
 در مجتهد بحديث غریب استدلال نماید بر چه حدیثی جاریست
 ام اعظم باین حدیث استدلال کرده است بر آنکه در حدیثی است
 و المتحقق میسود قال العلامة ابن عابدین الشافعی و در الحار جاشیه
 کتاب البیوع و ما حدیث الکتب من باع نخلا مورقاً فله ثلثه
 شتر المتباغ فلا یعارضه لان مفهوم الصفه غیر معتبر عندنا و اقبل
 اول غریب فیه ان المجتهد اذا استدلل بحديث كان تصحیحاً له

سورۃ زمره
 اصل الله و صمد
 بجز از منی نام
 دار الاسلام نام دعوی
 کرام موز شده است
 بلوا سواد از منی نام
 و اینگونه ناچار از احوال
 حیاط در این حوزة اسلامی
 در حدیثی که نقل فرمایند
 ام اعظم باین حدیث
 و المتحقق میسود
 کتاب البیوع و ما
 شتر المتباغ فلا
 اول غریب فیه ان
 المجتهد اذا استدلل
 بحديث كان تصحیحاً له

عکس حواشی مولانا قادر بخش (بر کتاب فتاویٰ بهایونی)

ابیات

افسوس تو خستہ ہوا، مبارک الوداع - رورویا، دل نہ ہو یہاں مبارک الوداع

دہشتیں تم تھی منتظر شہدہ یا اما نور - حنف جبار دلدنا مبارک الوداع

تجھ میں شہید رنگی رہا، ہنوسنی بڑی - صل علی صل علی حامی مبارک الوداع

قرآن بھل نازل ہو، اکتو شرف حاصل ہو - اسی دور رسو، عامل رہتا مبارک الوداع

جست کا دورزیا، نکل دوزخ کا دورزیا مند - خالق کی کل پیدا، مبارک الوداع

دینوں کا اندر یقین تو، قیہ شہاد یعنی - جو من مذکور سے، مبارک الوداع

سڑتا تھا متکون جب باکوں پڑھتے تھے - پانٹا لو، مبارک الوداع

جو شرفی ہو، کسی کو اور اوٹھو، جامع علی تہا، مبارک الوداع

مگر اندر دہاں، پڑھتے تھے جب نہ ملتا، مبارک الوداع

جو غم میں رہا، تو اس کل ۱۹۰۰، مبارک الوداع

اب کو، یہ یقین نظر آتلا، مبارک الوداع

تو، ہفتاد اور ملا، مبارک الوداع

گھومتے، مبارک الوداع

عکس ابیات بعنوان "الوداع ماہ رمضان" بقلم قادر بخش

اعلموا ان لهذا شهر رخص
 فتمتوا واعلموا ان هذا شهر رخص
 والذليل يورث ما منحه الربكاتب
 وفتح الدنيا وتفتحت الدنيا
 وفتح الدنيا وتفتحت الدنيا
 عتبه كل افطن والاف من عتق من اندر الوداع الوداع بالمشهد
 وعايشهم الامن واندحان است الوداع الوداع بالمشهد
 مصفوفة واخره في كمن من اندونب والخطى است الوداع الوداع بالمشهد
 اسدهم مكب يا سلهم بقمق وود الوداع الوداع بالمشهد عتبه بالمشهد
 اسدهم مكب يا سلهم الوداع الوداع بالمشهد لقرآن الوداع الوداع بالمشهد

الوداع مايا شهرى رمضان (بقلم قادر بخش)

بخش در گندہ لطفعلی خواجہ الکرشن

غور کر مجھ پر دہاڑا کر حشر ماسدات

دیدار ہمیشہ کر لیبیہ خواجہ سرین

کوشش نیر ایش نور دیدن شفا حاصل

فضل کر مجہ بر طفیل حاجی الکرشن میر

بادشاہ انسو لگا ابرو سما کی واطر

ارجم طفیل خواجہ حوشاہ میر

حاجی شاہ شی صاحب سنی کی واطر

بخند واپسی جنت اوقتیہ ماسدات

حرمی پیران شہر چشتیان کی واطر

عکس اشعار شجرہ بقلم مولانا قادر بخش



عکس مزار مولانا قادر بخش (چوہر کوٹ)



عکس مزار مولوی احمد یار برادر مولانا قادر بخش (بارکھان)



بیاگان منکحت از سال اول بدعت با خصوص بنوعی مقلدین و دوابیہ لغت
مع رسالہ مبارکہ

بازگشت از سال اول بدعت

۱۳

م

۱۶

تصنیف لطیف

علامہ دوران امام المناظرین مقدم التحقیق حضرت عالم السنن مخدومنا مولانا
الحاج عبدالصطفی احمد رضا خان حنفی قادری برکاتی بریلوی منظر الاعالی

ترجمہ

(مولانا بریلوی حکیم) امجد علی اعظمی رضوی نے اپنے اہتمام سے

کامپوزنگ اور اشاعت مطبع السنن واقع بریلوی

الحسد

ہدایت برادران اہلسنت کے لیے
نیقیس و ضروری فتوے سے دافع بلا و بلو سے

حسین عظیم و حلیل بندوں سے روشن کیا بڑا کہ بیکار حال کہ جس قدر رافضی تبرائی ہیں
علی الہوم سب کا فر و مرتد ہیں اونکے ساتھ کوئی معاملہ مسلمانوں کا سا برتنا حلال
نہیں رافضی اپنے کسی مورث مسلمان کا ترکہ شرعاً نہیں پاسکتا اگرچہ وہ
مورث اس رافضی کا باپ یا حقیقی بھائی ہو رافضی مرد یا عورت کا نکاح کسی مسلمان یا کافر
رافضی یا غیر رافضی اصلاً کسی نہیں ہو سکتا شخص زنا ہوگا اور اولاد ہرگز صحیح النسب نہوگی
سے بنام تاریخی

رش الرافضیہ

تصنیف لطیف و ترصیف منیف

عالم اہلسنت ناظم ملت مفتی شریعت حامی طہریت بحر العلوم عطیہ نبی الامۃ
صاحب محتقاہرہ موبد سنت زاہرہ مجدد ماتہ حاضرہ حضرت مولانا مولوی
محمد احمد رضا خان صاحب حنفی قادری برکاتی بریلوی قبلہ مدظلہ
اعزازیام سے مولانا مولوی حکیم ابوالعلا محمد عمری صاحب قادری رشتوی اعظمی نے

مطبعی اہل جہاوا افعیہ میں چھاپا گیا ہے

قیمت فی جلد شہ

اس فتویٰ کے دفعہ
کی گئی جو
تاریخ تکرار
مطبعہ قادریہ
شہادۃ العالیہ
میں چھاپا گیا ہے

مخبرہ سنیہ

یہ مبارک فتوے جس میں روشن دلائل و ثبوت دیا ہے کہ مرزا کا دیوانی کہ اپنی آپ بیتی رسول کہتا اور نبی صلی علیہم السلام کی توہین کرتا اور بکثرت سروریات دین کا انکار کرتا کافر مرتد ہے اور اس کے گروہ کو ساری مرزائی کافر مرتدین اپنے کج اور میں اور غیرہ جہالہ موزین وہی احکام ہیں مگر تدبیرین سے بہ اسم تاریخی



تصنیف لطیف

اعلیٰ حضرت عالم اہلسنت قاضی بدعت مجدداتہ عافہ نوید ملت طاہرہ صاحب تصانیف کثیرہ باہرہ مولانا مولوی حاجی قاری مفتی شاہ احمد رضا خان صاحب قادری

نور انوار اتمام سوسولنا مولوی حکیم ابو العلامی علی صاحب رضوی اعظمی نے مطبع اہل و جماعہ واقعہ بیابان چھاپکشاہ

موسس و مدیر
 ایڈیٹر
 مسالہ کو خط لکھنا
 ہمارے دفتر
 پتہ
 لاہور

قیمت فی جلد

دوم ۱۰۰۰ جلد

وَأَشْرَقَتِ لَكُمُ الرُّضَىٰ وَرَبِّهَا

بعونہ تعالیٰ

روشنی مزارات اولیاء اللہ کے متعلق ایک نہایت ضروری فتویٰ
جس میں اوہار باطلہ و ہابئیہ کا ابطال کیا گیا اور ثابت کیا گیا کہ مزارات اولیاء اللہ کے
روشنی کرنا جائز بلکہ مستحسن ہے اسکی ممانعت نہیں ہے وہاں سید کی محض سورہی ہے

موسوم باسم تاریخ

بِرَبِّكَ الْكَاشِفُ

۱۳۳۱ھ

مکتبہ ذبیرہ المحققین امام المناظرین مجدد مائتہ حاضرہ مولانا طاہرہ علیہ السلام حضرت مولانا الحاج فاضل
قاری شاہ احمد رضا خان صاحب سی حنفی قادری برکاتی بریلوی متوفی ۱۳۱۱ھ سلمین بطول بقائم
باہتمام خاکسار محمد عبد اللہ مالک مطبع مجتہبی لکھنؤ
بمفاعلت جملہ حقوق تصنیف

مَطْبَعَةُ مَجْتَهَبِي لَكْنَو

قرآن سائنس

اول

امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ



ڈاکٹر مجید اللہ قادری



بزم عاشقانِ مصطفیٰ لاہور

عَلَّمَ الْأَفْئَاعِي عَنِّي حَتَّى هَادِرَفِعَ الرَّفَائِي

افضلیت

سیدنا غوث عظیم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ

امام احمد رضا قادری بریلوی

بزم عاشقانِ مصطفیٰ

فلیمنگ روڈ، لاہور

دینی، فقہی، سیاسی اور تاریخی موضوعات پر فکرانگیز معلومات

اِنطِصَالِ الْحَقِّ الْحَبِی

امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ

بزیم غاشقان مصطفیٰ

لاہور، پاکستان


تو کیا تم ان سے ان کے دیکھنے سے پہلے ہی
 اور انہوں نے تو وہ جیلوہ دو بار دیکھا
 (سورہ النجم، ۱۲، ۱۳)

صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
محمد اکرم اور
میرزا محمد علی

افاضات از: امام احمد رضا خان محدث بریلوی

مرتبہ اقبال احمد اختر القادی

لاہور
 پاکستان
 مصطفیٰ
 پاکستان



افاضاح از: امام احمد رضا خان محدث بریلوی

مرتبہ اقبال احمد اختر القادی

بزم عاشقانِ مصطفیٰ
لاہور پاکستان

امام احمد رضا

اور

علما ڈیرہ غازی خان

پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری

رضا اسلامک سینٹر

بلاک نمبر ۱۶، ڈیرہ غازی خان

